

ہر ایک انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص مقام عطا کیا گیا ہے۔

کرامات علیٰ حضرت



مؤلف

اقبال احمد رضاوی مصطفائی

جمعیت اشاعت اہلسنت

مفت سلسلہ اشاعت نمبر 38

مورسٹون کے گاندی بازار کراچی 74000

نام کتاب ----- کرامات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ

مؤلف ----- اقبال احمد رضوی مصطفائی

ناشر ----- جمعیت اشاعت اہل سنت

نور مسجد کاغذی بازار میٹھادر کراچی 74000

تعداد ----- ایک ہزار (1000)

صفحات ----- چھیانوے (96)

ہدیہ ----- دعائے خیر بحق معاونین



پیش لفظ

اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے دوستوں کی شان یوں بلند فرماتا ہے۔ ”الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون“

یہی اللہ کے پیارے کے جن کے لئے حدیث مبارکہ میں وارد ہوا کہ جب یہ لوگ کسی بات پر قسم کھالیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ اور کیوں نہ فرمائے وہ خالق کائنات اللہ رب العزت، ہر شے پر قادر جو اگر چاہے تو سوئی کے ایک ٹاکے سے کروڑوں دنیا گزار دے کیا اتنی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنے ان محبوبین کے جنہوں نے تمام عمر کبھی اللہ رب العزت کی حکم عدولی نہیں کی کو نہ صرف یہ کہ اپنے انعام و اکرام سے نوازے بلکہ انھیں بھی اس قابل بنادے کہ وہ عوام الناس کو اپنے فیوض و برکات سے اللہ کی عطا کی ہوئی طاقت کے ذریعے مستفیض و سیراب کر سکیں۔

کیوں نہیں! لیکن برا ہو دل کہ اس لاعلاج بیماری کا کہ جس کے لئے قرآن مجید فرقان حمید میں یوں آتا ہے:

”فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضاً“

یہ زنگ آلود متعفن ذہن ہر وقت اس فکر نار میں مشغول رہتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تعالیٰ کے مقربین اور برگزیدہ بندوں کی ذوات قدسیہ میں تنقیصی پہلو نکالا جائے اور ان کی گرانقدر ہستیوں سے عوام الناس کو تحفہ کیا جائے مگر اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوبین کا ذکر برہانا مقصود تھا چنانچہ یہ بد بخت اپنی ہزار کوششوں کے باوجود نہ صرف یہ کہ خائب و خاسر ہوئے بلکہ ان کے لئے قرآن حکیم یوں ارشاد فرماتا ہے۔

”ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ“

”ولہم عذاب عظیم“

جب یہ مقبولان بارگاہ ایزدی قرب الہی کی منزل پر پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا و

فہرست

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۱۴	تقویٰ	۷	اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ کا خاندانی سلسلہ
۱۵	آغاز نصیحت	"	مولانا سعید اللہ خاں صاحب
"	روزہ کشائی	"	مولانا سعادت یار خاں صاحب
۱۶	تعلیم کا شوق	"	مولانا اعظم خاں صاحب
"	دستار فضیلت	"	حافظ کاظم علی خاں صاحب
"	کارِ افتاء	۸	مولانا شاہ رضا علی خاں صاحب
۱۷	خدا داد علم	"	کرامت
"	شادی مبارک	"	مولانا شاہ نقی علی خاں صاحب
۱۸	علمائے حق	۹	کرامت
۲۰	شرف بیعت	"	اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں صاحب
۲۱	پہلا حج اور روضہ النور کی زیارت	"	مختصر حالات
۲۲	ایمان کا دار و مدار	۱۰	محمد نام رکھنے کے فضائل
۲۳	آپ کی تصانیف	"	ایک حدیث
۲۸	چودھویں صدی کا مجدد	۱۱	بشارت قبل پیدائش
۲۹	اعلیٰ حضرت کی حیات مقدس	"	بزرگوں کی پیش گوئیاں
۳۰	اس دربار کے حاضر باش	"	کرامت
۳۱	ایک عجیب سوال	"	رسم بسم اللہ خوانی
"	فیض صحبت	۱۲	عین نصیح اور غلط لفظ
۳۲	عبادت	۱۳	

قدرت سے ان سے بعض ایسی ناقابل فہم حرکات و سکنات اور واقعات سرزد ہوتے ہیں جنہیں اہل علم کرامت کے نام سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان خرق عادت و اتفاقات کہ جنہیں کرامات کہا جاتا ہے ارباب عقل و دانش اب تک کوئی عقلی توجیح بیان کرنے سے قاصر ہیں۔

لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کہ اسے انہیں ناقابل فہم اور ماورائے عقل واقعات کو اپنے برگزیدہ بندوں کی پہچان کا ایک طریقہ بنایا۔ ”کرامات اعلیٰ حضرت“ ایک ایسی ہی کتاب ہے جس میں اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت پر وانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہزاروں کرامتوں سے چیدہ چیدہ کرامات کو جمع کر کے کتابی صورت میں جمع کیا گیا ہے۔

جمیعت اشاعت اہلسنت اس کتاب کو اپنے سلسلہ مفت اشاعت کی ۲۸ ویں کڑی کے طور پر شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے۔

اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ:

اے مالک بحرور جب تک سورج اپنی روپہلی کرنوں سے اہل زمین کو دھوپ و تمازت مہیا کرتا رہے جب تک چاند اپنی ٹھنڈی ٹھنڈی چاندنی سے دنیا کو منور کرتا رہے جب تک پہاڑوں میں مضبوطی باقی رہے جب تک ندیاں اور جھرنے اپنے مخصوص سروں میں گنگناہی رہیں جب تک انواع و اقسام کے پھول چمنستان عالم کو مہکتے رہیں جب تک ستاروں کی یہ انجمن سلامت رہے ہمارے امام اہلسنت کی قبر پر انوار پر اپنی رحمت و رضوان کی بارش نازل فرما۔ اور ہمیں ان کے فیوض و برکات سے تابد مستفیض فرما۔

طالب غم مدینہ و جنت البقیع
بجاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم
محمد شعیب امجدی قادری عفی عنہ

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۶۷	احترام مسجد	۸۶	مولانا سعید اللہ مفتی شافعی صاحب
۳۵	خدمتِ دین	"	مولانا شیخ ابوالخیر مراد صاحب
۳۷	ذہانت	"	مولانا صالح کمال صاحب
۳۹	اہل اسلام سے محبت	"	مولانا شیخ علی بن صدیق کمالی صاحب
"	اور دشمن اسلام سے عداوت	"	شیخ محمد عبدالحق مہاجر الہ آبادی
۴۴	قلیل الطعام	"	مولانا سید اسماعیل خلیل صاحب
"	اسلامی مساوات	۴۸	مولانا سید مرزوق الہوسین صاحب
۴۵	خوش طبعی	"	شیخ عمر بن ابی بکر باجنید صاحب
۴۶	کرم و سخاوت	۴۹	مولانا مفتی عابد حسین صاحب
۵۱	توکل	۷۰	مولانا علی بن حسین صاحب مالکی
۵۲	سونے کا نظام	"	مولانا جمال بن محمد بن حسن صاحب
۵۴	اعلیٰ حضرت مفسر کی حیثیت سے	۷۱	مولانا اسعد بن احمد صاحب
۵۵	ترجمہ قرآن کریم	"	مولانا شیخ عبدالرحمن صاحب دھان
"	حفظ قرآن	۷۲	مولانا محمد یوسف صاحب
۵۶	و عظ و تقریر	۷۳	مدرس مدرسہ صولتیہ
"	کشف و کرامات	"	مولانا شاہ امداد اللہ صاحب مالکی
۶۰	سادات کرام کا احترام	"	مولانا محمد بن یوسف خیاطی صاحب
"	تعظیم سادات کرام	۸۳	شجرہ منظومہ مشائخ کرام
"	اخلاقِ کریمہ	۸۴	مشائخ کرام کے تاریخہائے وصال
۶۵	سفر مبارک	"	و مزارات مقدسہ
"	فقیر اور عالم	۸۶	اعلیٰ حضرت کی نسبت مکہ اور مدینہ کے علماء کی تحریریں۔

صفحہ نمبر	عنوان	صفحہ نمبر	عنوان
۹۱	مولانا محمد صالح بن محمد فاضل صاحب	۸۶	مولانا سعید اللہ مفتی شافعی صاحب
۹۲	مولانا شیخ سعید محمد بن یحییٰ صاحب	"	مولانا شیخ ابوالخیر مراد صاحب
"	مولانا حامد احمد محمد صاحب جداوی	"	مولانا صالح کمال صاحب
"	علماء مدینہ طیبہ	۸۷	مولانا شیخ علی بن صدیق کمالی صاحب
"	مولانا تاج الدین الیاس صاحب	"	شیخ محمد عبدالحق مہاجر الہ آبادی
"	مولانا محمد عثمان بن عبد السلام داغستانی	۸۸	مولانا سید اسماعیل خلیل صاحب
۹۳	مولانا سید احمد جزائری	۸۹	مولانا سید مرزوق الہوسین صاحب
"	مولانا خلیل بن ابراہیم خربلوی صاحب	"	شیخ عمر بن ابی بکر باجنید صاحب
"	مولانا سید محمد سعید شیخ الدلائل صاحب	"	مولانا مفتی عابد حسین صاحب
"	مولانا محمد بن احمد عمری صاحب	"	مولانا علی بن حسین صاحب مالکی
"	مولانا سید عباس بن سید محمد رضوان صاحب	۹۰	مولانا جمال بن محمد بن حسن صاحب
۹۴	مولانا عمر بن حمدان صاحب	"	مولانا اسعد بن احمد صاحب
"	مولانا سید محمد عباس بن محمد مدنی	"	مولانا شیخ عبدالرحمن صاحب دھان
"	مولانا شیخ محمد صاحب بن محمد یوسفی	۹۱	مولانا محمد یوسف صاحب
"	مولانا شریف احمد صاحب برزنجی	"	مدرس مدرسہ صولتیہ
۹۵	استقامت و ولایت	"	مولانا شاہ امداد اللہ صاحب مالکی
"		"	مولانا محمد بن یوسف خیاطی صاحب

نوٹ: علماء اہلسنت و دیگر عقیدہ مند حضرات کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے کہ اس کتاب کی کسی عبارت میں یا جملہ میں کبھی بڑبی ہوئی ہو تو برائے خدا مطلع فرمائیں کہ آئندہ ایڈیشن میں درست کر دیا جائے۔
(دکترین اقبال احمد)

جمعیت اشاعت اہلسنت (پاکستان) کے اغراض و مقاصد

- * ہر دل مسلم میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزاں کرنا۔
- * مسلک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترویج و اشاعت کے لئے ہمہ وقت کوشاں رہنا۔
- * مختلف اوقات میں حفظ و ناظرہ کے مدرسوں کا انعقاد۔
- * عوام الناس میں دینی شعور بیدار کرنے کے لئے قائم لائبریری کے تحت دینی کتب و کیسٹوں کا مفت اجراء۔
- * ہفتہ واری اجتماع کے سلسلے میں ہر ہفتہ مختلف موضوعات پر جید علماء کرام کے بیانات کروانا۔
- * مختلف اوقات میں درس نظامی کی کلاسوں کا انعقاد۔
- * بد مذہب فرقوں کی طرف سے پھیلانے جانے والے گمراہ کن عقائد و نظریات کی روک تھام کے لیے مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً عقائد اہلسنت پر مبنی کتب و لٹریچر کی مفت اشاعت۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کا خاندانی سلسلہ

اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آبا و اجداد اکثر ادیبائے کرام باکرامت عالم باہل گزرے۔ آپ کا خاندانی سلسلہ یوں شروع ہوتا ہے۔
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کا نام مولانا مفتی علی خاں صاحب ان کے والد ماجد کا نام مولانا رضا علی خاں صاحب، ان کے والد ماجد کا نام مولانا حافظ کاظم علی خاں صاحب، ان کے والد ماجد کا نام عظیم خاں صاحب، ان کے والد ماجد کا نام مولانا محمد سعادت یار خاں صاحب، ان کے والد ماجد کا نام مولانا مسیح اللہ خاں صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔

مولانا مسیح اللہ خاں صاحب
آپ قندھار کے موقر قبیلہ پڑپچ کے پٹھان تھے۔ شاہانِ مغلہ کے عہد میں سلطان محمد شاہ نادر شاہ کے ہمراہ لاہور آئے اور مرزا عہدوں پر فائز ہوئے۔ لاہور کا شیش محل آپ ہی کی جاگیر تھا۔ پھر لاہور سے دہلی تشریف لائے۔ اس وقت آپ شیش ہزاری عہدے پر تھے شجاعت جنگ آپ کو خطاب عطا ہوا۔

سعادت یار خاں صاحب
آپ کو سلطنتِ مغلہ کی جانب سے ایک جنگ فتح کرنے پر پہل کھنڈ بھجوا گیا۔ فتح ہو جانے پر آپ کو بریلی کا صوبیدار بنانے کے لئے فرمانِ شاہی آیا لیکن آپ بسترِ مرگ پر آرام فرماتے۔

مولانا عظیم خاں صاحب
آپ ایک بہت بڑے عہدہ پر فائز تھے اور ایک بڑا روپیہ ماہوار سے کم مستحضر نہ تھا۔ بریلی تشریف لائے تارک الدنیا ہو کر محلہ مہارن میں شاہزادہ کا تکلیف جو آپ ہی کے نام سے مشہور ہے وہیں قیام فرمایا اور وہیں آپ کا مزار مدفون ہے۔ آپ کا مل ادیبائے کرام میں سے تھے۔
کرامت: آپ کے صاحبزادے ہر پچھنبہ کو سلام کرنے حاضر ہوا کرتے۔ ایک

مرتبہ جاڑے کے موسم میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ شاہ صاحب اس موسم میں آگ کے دھرے کے پاس تشریف فرما ہیں اور جم چیرمائی پوشاک نہیں تو فوراً اپنا پیش پہنے دو شالہ اتار کر اپنے والد ماجد کے کاندھے پر ڈال دیا۔ شاہ صاحب نے نہایت استغنا آتا کر آگ کے دھرے میں انی یا آپ کے صاحب زادے صاحب کے دل میں یہ خیال ہوا کاش جلائے کیجئے کسی اور کو عطا فرما دیا جاتا۔ اوہ دل میں خیال پیدا ہوا۔ شاہ صاحب نے اس آگ کے بھڑکتے ہوئے دھرے میں سے دو شالہ کھینچ کر پھینک دیا اور فرمایا فقیر کے یہاں دھڑکے کا کام نہیں لے اپنا دو شالہ جب دیکھا تو اس پر آگ نے کچھ اثر کیا تھا۔ آپ شہر بڑائیوں کے تحصیلدار تھے۔ دونوں سواروں کی بٹالین خدمت میں رہا کرتی۔

حافظ کاظم علی خاں صاحب | آپ اس کوشش میں تھے کہ سلطنت مغلیہ اور انگریزوں میں جو گڑبڑ ہے دور ہو جائے اور اس سلسلہ میں کلکتہ بھی تشریف لے گئے تھے۔

آپ نے شہر ٹونک میں مولوی خلیل الرحمن مولانا شاہ رضا علی خاں صاحب | صاحب سے علوم درسیہ حاصل کر کے بائیس سال کی عمر میں سند حاصل فرمائی۔ آپ کے علم کا شہرہ ہندوستان میں دور دور تک پھیلا۔ آپ فقر و تصوف میں کامل بہت پڑا اثر تقریر فرماتے۔ فصاحت کلام، سبقت اسلام، زہد و قناعت، علم و تواضع آپ کا خاص حقہ تھا۔ آپ اپنے وقت کے قطب تھے۔ آپ سے بہت کرامتیں ظاہر ہوئیں۔ ایک دو واقعہ نقل کئے جاتے ہیں۔ اہل ہندو کے ہونی کے تہوار پر بازار میں سے گذر فرمایا۔ ایک ہندو کرامت | بازار ی طوائف نے آپ پر رنگ ڈال دیا۔ ایک چوٹیلے نوجوان نے اوپر جا کر مارنا چاہا۔ فرمایا کیوں تشدد کرتے ہو۔ اس نے بچہ پر رنگ چھوٹا ہے غدا اسے رنگ دے گا۔ اتنا زبان مبارک سے نکلتا تھا وہ طوائف خور آدمیوں پر آگری سحافی مانگی مشہور باسلام ہوئی آپ نے وہیں اس نوجوان سے عقد کر دیا کرامت | ایک صاحب آئے اور کچھ رقم قرض مانگی۔ آپ نے فرمایا بکھو بیا

صرف نہ کرنا۔ وہ صاحب آزاد مزاج تھے رقم لے کر طوائف کے یہاں گئے۔ دیکھا کہ حضرت کا عصا اور چھتری رکھی ہوئی ہے الٹے پاؤں واپس ہوئے۔ دوسری کے یہاں گئے وہاں بھی یہی حال دیکھا تیسری کے یہاں گئے وہاں بھی وہی دیکھا غرض عاجز ہو کر حاضر خدمت ہوئے اور صدق دل سے توبہ کی۔ جناب محمد حسن صاحب علمی جن کا خطبہ علمی ہندوستان میں ہر جگہ پھیلا ہوا ہے آپ ہی کے شاگرد اور مرید ہیں۔

آپ نے اپنے والد ماجد مولانا رضا علی مولانا شاہ حکیم نقی علی خاں صاحب | خاں صاحب سے علوم دینیہ ظاہرہ باطنہ حاصل فرمائے علوم ظاہری میں آپ کا نظیر تھا۔ نظر فرست کا یہ عالم جو فرمایا ویسا ہی ظہور میں آیا۔

ایک بار کا ذکر ہے کہ بریلی شریف میں قحط پڑا۔ پانی نہیں برس سمسلا کرامت | نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ چلو۔ بازار سے گزر ہوا۔ غیر مسلمین نے طنزاً کہا دیکھنا ہے کہ آپ پانی بروا کر ہی بیٹیں گے۔ جب عید پہنچے دوکان پر چھا اور دعا مانگی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ پانی برسنے شروع ہو گیا۔

حضور پر نور علی حضرت عظیم البرکتہ امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ عبدالمصطفیٰ محمد راجد رضا خاں صاحب

فاضل بریلی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ

جن کی تعریف و تہنیت سے زمانہ گونج رہا ہے۔ آپ کے علم و فضل کی روشنی دنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ چکی ہے۔ آج ہر گلی کوچہ میں، شہر وستی میں بلکہ ہر ایک ملک میں آپ کے خدا داد علم کا ذکر اور بے لوث خدمت دین کا چرچا ہے آپ کے محقر حالات بیان کئے جاتے ہیں۔

مختصر حالات

آپ کی ولادت بریلی جو روہیل کھنڈ کا صدر مقام ہے محلہ جسولی جہاں آپ کا آبائی مکان تھا جس میں آپ کے دادا جان مولانا شاہ رضا علی خاں صاحب قیام تھا ۱۲۸۵ھ۔ ارشوال المعظم بروز شنبہ بوقت ظہر مطابق ۱۴ جون ۱۸۶۵ء میں ہوئی۔ آپ کو بہت سے نام و خطابات یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا پیدائشی نام محمد ہے آپ کی والدہ ماجدہ محبت میں آصفیہ صبا فرمایا کرتی تھیں۔ والد ماجد جلیلہ اور دیگر اعزہ احمد میاں کے نام سے یاد فرمایا کرتے۔ آپ کے جد امجد صاحب قبلہ نے آپ کا اسم شریف احمد رکھا۔ اور آپ کا تاریخی نام المختار ہے۔ اور خود اعلیٰ حضرت رحمی اللہ تعالیٰ عنہ عبد المصطفیٰ اپنے نام سے پہلے لکھا کرتے۔ دیگر آپ نے اپنا سن ولادت اس آیت کریمہ سے استخراج فرمایا اُولَئِكَ كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانُ وَ اَيَّدُوهُمْ بِرُوحِنَا۔ ترجمہ: یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرمادیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد فرمائی۔ اب جب کہ نام کا ذکر آگیا ہے تو اس کے متعلق بھی عرض کر دوں جو ہر مسلمان کے لئے فوائد کثیرہ کا باعث ہو گا جو خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکۃ کی زبان فیض ترجمان سے ارشاد ہوا۔

محمد نام رکھنے کے فضائل

کسی نے عرض کی حضور میرے بھتیجا پیدا ہوا ہے اس کا کوئی تاریخی نام تجویز فرمادیں ارشاد فرمایا: تاریخی نام سے کیا فائدہ۔ نام وہ ہوں جن کے احادیث میں فضائل آئے ہیں۔ میرے اور میرے بھائیوں کے جتنے لڑکے پیدا ہوئے ہیں سب کا نام محمد رکھا یہ اور بات ہے کیہی نام تاریخی بھی ہو جائے۔ حامد رضا خاں کا نام محمد ہے اور ان کی ولادت ۱۲۹۶ھ میں ہوئی اس مبارک نام کے عدد ۹۲ ہیں۔ ایک وقت تاریخی نام نہیں یہ بھی ہے کہ اسماء حسنی باری تعالیٰ ایک یا دو اعداد و اوقات عدد نام قاری ہوں۔ عدد نام دو چکر کے پڑھے

جاتے ہیں۔ وہ قاری یعنی پڑھنے والے کو اسم اعظم کا فائدہ دیتے ہیں۔ تاریخی نام سے مقدار بہت زائد ہو جائے گی مثلاً اگر کسی کی ولادت اس ۱۳۲۲ھ میں ہوئی تو اس کے مطابق عدد کے اسماء حسنی ۲۴۵۸ بار پڑھے جائیں گے اور محمد نام ہوتا تو ایک سو چار سو بار دونوں میں کس قدر فرق ہے پھر اس نام اقدس کے فضائل میں یہ چند حدیثیں ذکر فرمائیں۔

میں ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشنے کا۔ ایک روایت میں ہے جس مشورے میں اس نام کا آدمی شریک ہو اس میں برکت رکھی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تمھارا کیا نقصان کہ تمھارے گھروں میں دو یا تین محمد رکھے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا شاہ فی علی بشارت قبل پیدائش

خان صاحب نے ایک خواب عجیب دیکھا۔ جس کا سرور دل کو مسرور کرتا رہا۔ مگر خواب یاد آنے پر تشویش بڑھ جاتی۔ آپ نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا رضا علی خاں صاحب سے بیان فرمایا۔ آپ نے تعبیر میں ارشاد فرمایا خواب مبارک ہے بشارت ہو کہ پروردگار کا عالم تمھاری پشت سے ایک فرزند عطا فرمائے گا جو علم کا دریا بہائے گا جس کا شہرہ مشرق و مغرب میں پھیلے گا۔

بزرگوں کی پیش گوئیاں

جب اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد آپ کو لے کر مولانا رضا علی خاں صاحب قدس سرہ العزیز کی خدمت میں گئے مولانا نے دیکھ کر گود میں لیا اور فرمایا یہ میرا بیٹا بہت بڑا عالم ہو گا عقیقہ کے دن والد ماجد نے خواب خوش گوار دیکھا جس کی تعبیر یہ تھی کہ یہ فرزند فاضل و عارف باللہ ہو گا۔ کرامت ایک دن اعلیٰ حضرت اپنی مسجد کے سامنے تشریف فرما تھے

عمر شریف اس وقت ساڑھے تین سال کی تھی ایک صاحب اہل عرب کے رہا
میں جلوہ فرما ہوئے انہوں نے آپ سے عربی زبان میں گفتگو فرمائی آپ
نے فصیح عربی میں ان سے کلام کیا اس بزرگ ہستی کو کچھ بھی نہیں دیکھا نہ آپ نے
بتایا کہ وہ کون بزرگ تھے اور ان سے کیا گفتگو ہوئی۔

بسم اللہ خوانی اس کا صحیح علم نہیں کہ آپ کی بسم اللہ خوانی کس عمر میں
ہوئی۔ ہاں اسی سے اندازہ کر لیں کہ آپ نے چار
سال کی عمر میں قرآن کریم ناظرہ ختم کر لیا تھا۔ بسم اللہ خوانی کے وقت ایک
عجیب واقعہ پیش آیا حضور کے استاد محترم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد
الف۔ با۔ تا۔ ثا۔ جس طرح پڑھا جاتا ہے پڑھایا حضور ان کے پڑھانے کے
مطابق پڑھتے رہے جب لام الف کی نوبت آئی تو استاد نے فرمایا۔ کہو
لام۔ الف حضور خاموش رہے۔ استاد نے دوبارہ کہا کہو میاں لام الف۔
حضور نے فرمایا یہ دونوں تو پڑھ چکے۔ لام بھی پڑھ چکے ہیں۔ الف بھی پڑھ چکے
ہیں۔ یہ دوبارہ کیسا۔ اس وقت حضور کے جد امجد مولانا رضا علی خاں تھا
قدس سرہ العزیز فلکے جاح کمالات ظاہری و باطنی تھے فرمایا بیٹا استاد کا
کہا مانو جو کہتے ہیں پڑھو حضور نے اپنے جد امجد کے چہرے کی طرف نظر کی۔
حضور کے جد امجد نے اپنی فراست ایمانی سے سمجھا کر نیچے کو شبہ ہے کہ یہ
حرف مفردہ کا بیان ہے اب اس میں ایک مرکب لفظ کیسے آیا۔ ورنہ یہ دونوں
حرف الگ الگ تو پڑھ ہی چکے ہیں۔ اگرچہ بچے کے عمر کے اعتبار سے اس راز کو
ظاہر کرنا مناسب نہ تھا اور سمجھ سے بالا خیال کیا جاتا مگر ہونا ہر دور کے بچے
چکنے بات۔ حضرت جد امجد نے فوراً باطنی سے سمجھا کہ یہ لڑکا کچھ سمجھنے والا ہے اس
لئے ابھی سے اسرار و نکات کا ذکر ان کے سامنے مناسب جانا اور فرمایا تمھارا
خیال درست سمجھنا بجا ہے مگر بات یہ ہے کہ شروع میں تم نے جس کو الف پڑھا
حقیقتہً وہ ہمزہ ہے اور یہ درحقیقت الف ہے لیکن الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے

اور ساکن کے ساتھ ابتدائاً ممکن ہے اس لئے کہ ایک حرف یعنی لام اول
میں لاکر اس کا تلفظ بتانا مقصود ہے حضور نے فرمایا تو کوئی بھی ایک
حرف ملا دینا کافی تھا۔ اتنے حرف کے بعد لام کی کیا خصوصیت ہے۔ با۔ تا۔
وال۔ سین بھی اول لاسکتے تھے۔ حضرت نے غایت محنت و جوش میں کلمے رکھا
لیا اور دل سے بہت دعائیں دیں۔ پھر فرمایا کہ لام اور الف میں صوتہ متنا
خاص ہے ظاہراً لکھنے میں بھی دونوں کی صورت ایک ہی ہے کایا لا اور میرۃ
اس وجہ سے لام کا قلب الف ہے اور الف کا قلب لام دل۔ لام اور
الف (ف) ہے یعنی یہ اس کے بیچ میں وہ اس کے بیچ میں گویا ہے
من نو شدم تو من شدمی من ان شدم تو جان شدمی
تا کس نکوید بعد اری من دیگرم تو دیگرمی

کہنے کو حضور کے جد امجد نے اس لام الف کو مرکب لانے کی وجہ
بیان فرمائی مگر سچ پوچھو تو باتوں باتوں میں سب کچھ بتا دیا اور اسرار و
حقائق کے رموز و اشارات کے دریافت و ادراک کی صلاحیت و قابلیت
اسی وقت سے پیدا فرمادی جس کا اثر سب نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شریعت
میں وہ اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے قدم بقدم ہیں تو طریقت حضور
سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نائب اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین تو
عجیب فصیح اور غلط لفظ

نے آپ کو ہر لغزش سے محفوظ رکھا۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ مولوی صاحب کسی
آیہ کریمہ میں بار بار زبر بتا رہے تھے اور آپ زیر پڑھتے تھے یہ کیفیت حضور کے
جد امجد حضرت مولانا رضا علی خاں صاحب قطب الوقت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
نے دیکھ کر حضور کو اپنے پاس بلالیا اور کلام پاک منگا کر دیکھا تو اس میں کاتب
سے عربی غلطی ہو گئی تھی زیر کی جگہ زبر لکھا دیا تھا اور اسی طرح بے تصحیح طبع ہو گیا تھا۔

یعنی جو زیر حضور پر نور اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا وہی صحیح تھا پھر بھی حضور سے حضرت جلالہ قدس سرہ نے فرمایا کہ مولوی صاحب تم کو جس طرح بتاتے تھے کیوں نہیں پڑھتے تھے عرض کی میں ارادہ کرتا تھا کہ جس طرح بتاتے ہیں اسی طرح پڑھوں مگر زبان پر قابو نہ پاتا تھا حضرت نے فرمایا خوب اور مسکرا کر سر پر ہاتھ پھیرا اور دل سے دعائیں دیں۔ پھر ان مولوی صاحب سے فرمایا یہ سچ پڑھ رہا تھا حقیقتہً کاتب نے غلط لکھ دیا ہے۔ پھر قلم فیض رقم سے اس کی تصحیح فرمادی۔

ایک دن مولوی صاحب موصوف حسب محمول بچوں کو پڑھا رہے تھے کہ ایک بچے نے سلام کیا۔ مولوی صاحب نے جواب میں کہا جیتے رہو۔ اس پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو جواب نہ ہوا۔ علیکم السلام کہنا چاہیے تھا۔ مولوی صاحب بہت خوش ہوئے اور بہت دعائیں دیں۔

تقویٰ حضور کی عمر چار سال تھی۔ اس وقت ایک بڑا کرتہ ٹخنوں تک پہنچے ہوئے مکان کے باہر تشریف لائے سامنے چند طوائفیں گزریں آپ نے فوراً کرتے کا اگلا دامن دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر چہرہ مبارک پر ڈال لیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر ایک طوائف بولی واہ میاں صاحب زادے آنکھیں ڈھک لیں اور ستر کھول دیا۔ آپ نے مونہ کو چھپائے اسی طرح حیرت جواب دیا۔ جب آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے جب دل بہکتا ہے تو ستر بہکتا ہے۔ یہ جواب سن کر وہ سکتہ کے عالم میں رہ گئی۔

آپ بچپن ہی سے اولیائے کرام کے عاشق اور ان کی محبت کے شائق تھے بریلی شریف میں ایک بزرگ مجذوب بشیر الدین صاحب آخن زادہ کی مسجد میں رہا کرتے تھے جو کوئی ان کے پاس جاتا کم سے کم پاس کالیاں سناتے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکی خدمت میں حاضر ہونے کا شوق ہوا آپ کے والد ماجد قدس سرہ کی خوشی کہ کہیں باہر بغیر آدمی کے ساتھ لے

نہ جائیں۔ ایک روز رات کو گیارہ بجے اکیلے ان کے پاس پہنچے اور مسجد کے فرش پر جا کر خاموش بیٹھ گئے۔ وہ حجرے میں چار پائی پر بیٹھے تھے آپ کو پندرہ بیس منٹ تک بنوڑ دیکھتے رہے۔ آخر آپ سے پوچھا تم مولوی رضا علی صاحب کے کون ہو آپ نے فرمایا ان کا پوتا ہوں فوراً وہاں سے چھپے اور آپ کو اٹھا کر لے گئے اور اپنی چار پائی پر بٹھایا اور بڑی شفقت سے پوچھا کیسا مقدمہ کے لئے آئے ہو فرمایا مقدمہ تو ہے لیکن میں اس کے لیے نہیں آیا میں تو عرف دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ قریب آدھے گھنٹے تک برابر کہتے رہے اللہ کرم کرے۔ اللہ کرم کرے۔ اس کے بعد آپ کے منجھلے بھائی مولانا حسن رضا خاں صاحب ان کے پاس تشریف لے گئے دیکھتے ہی فرمایا مولوی صاحب سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے نصرۃ من اللہ وفتح قریب ط بس دوسرے دن مقدمہ فتح ہو گیا۔

آغاز نصیحت چھ سال کی عمر شریف میں ریح الاول کے مبارک مہینہ میں منبر پر رونق افروز ہوئے اور بہت بڑے مجمع کے سامنے سب سے پہلے تقریر فرمائی جس میں کم و بیش دو گھنٹے علم و عرفان کے دریا بہائے اور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پیدائش کے بیان کی خوشبو سے اپنی زبان کو معطر فرمایا۔

روزہ کشائی رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور حضور پر نور اعلیٰ حضرت کے روزہ کشائی کی تقریب ہے۔ کاشانہ اقدس میں جہاں افطار کا اور بہت قسم کا سامان ہے ایک کمرے میں فیرنی کے کپے پیالے جمائے کسے لئے چنے ہوئے تھے۔ آفتاب نصف النہار پر ہے ٹھیک تمازت کا وقت ہے حضور کے والد ماجد آپ کو اسی کمرے میں لے جاتے ہیں اور کمرہ بند کر کے ایک پیالہ اٹھا کر آپ کو دیتے ہیں کہ اسے کھا لو عرف کی میرا تو روزہ ہے۔ کیسے کھاؤں۔ والد صاحب قبلہ نے فرمایا بچوں کا روزہ

ایسا ہی ہوتا ہے لوگھالو میں نے کوڑا بند کر دیئے ہیں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں جس کے حکم سے روکھ رکھتا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی حضور کے والد ماجد کے چشمان مبارک سے اشکوں کا ناز بندھ گیا اور کمرہ کھول کر باہر آئے۔

تعلیم کا شوق آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے پڑھنے میں کبھی صدمہ کی برابر پڑھنے کو جاتے بلکہ حجہ کے دن بھی جانا چاہتے مگر والد ماجد کے منع کرنے سے رک جاتے شروع ہی سے آپ کا یہ عالم تھا کہ استاد سے کبھی چوتھائی کتاب سے زائد نہ پڑھتے تھے یعنی چوتھائی کتاب۔ استاد سے پڑھنے کے بعد بقیہ کتاب از خود یاد کر کے سنا دیا کرتے تھے۔ استاد جب سبق پڑھا دیا کرتے تو آپ ایک یا دو مرتبہ دیکھ کر کتاب بند کر دیا کرتے۔ ایک دن آپ سے پوچھا کہ احمد میاں یہ تو کچھ تم آدمی ہو یا جن کو کچھ پڑھانے دیتے تھے مگر تم کیا کرتے دیر نہیں لگتی۔ اس کے بعد میزان مشعب جناب مرزا قادیان صاحب سے پڑھیں باقی کتب درسیہ تمام دینیات کی تکمیل اپنے والد صاحب سے کی۔

دستارِ فضیلت عمر شریف کا چودھواں سال تھا ۱۲۸۳ شجانب العظمیٰ اگر سند و دستار فراغت حاصل فرمائی۔

اسی دن ایک رضاعت کا مسئلہ لکھ کر والد ماجد کا رافتاء کی خدمت میں پیش کیا جواب بالکل صحیح تھا۔ والد ماجد نے آپ کی فراست و ذہانت دیکھ کر اسی دن سے فتویٰ نویسی کا کام آپ کے سپرد فرما دیا۔ خیر یہ نودستار فضیلت حاصل کرنے کے بعد مسئلہ تحریر فرمایا مگر آپ نے تو ایک مسئلہ فرائض کا آٹھ سال کی عمر شریف میں تحریر فرمایا۔ والد ماجد کاؤں میں تشریف رکھتے تھے کہیں سے سوال آیا آپ نے جواب لکھا۔ جب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے دکھایا گیا۔ ارشاد فرمایا معلوم ہوتا ہے مسئلہ آئین میاں نے لکھا ہے

ان کو ابھی نہ لکھنا چاہیے مگر ہمیں اس جیسا کوئی بڑا لکھ کر دکھائے تو ہم جانیں۔

خدا داد علم شاید دس سال کی عمر شریف میں جب کہ اپنے والد ماجد صاحب قبلہ سے مسلم الثبوت پڑھ رہے تھے کہ والد صاحب کا تحریر کردہ اعتراض و جواب نظر پڑا جو آپ نے مسلم الثبوت پر کیا تھا اعلیٰ حضرت نے اس اعتراض کو رفع فرمایا اور متن کی ایسی تحقیق فرمائی کہ سرے سے اعتراض ہی وارد نہ ہوتا تھا۔ جب پڑھاتے وقت والد صاحب کی نظر اعلیٰ حضرت کے لکھے ہوئے حاشیہ پر پڑی اتنی مسرت ہوئی کہ اٹھ کر سینے سے لگایا اور فرمایا احمد رضائم تجھ سے پڑھتے نہیں ہو بلکہ پڑھاتے ہو۔

یہ ہے اعلیٰ حضرت کا خدا داد علم کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے سچے نائب کو پیدا ہوتے ہی اپنے علم کا سچا وارث بنا دیا تھا ائمہ کرام و کرام اللہ کا مصداق۔ بریلی شریف کا آفتاب چودھویں صدی کا مجدد جس نے حضور نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی تعلیم اور نور شریعت سے عالم کو روشن و منور کر دیا۔

شادی مبارک حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی جناب شیخ فضل حسین صاحب کی بڑی صاحبزادی ارشاد بیگم کی ساتھ ہوئی۔ ۱۲۹۱ھ میں یہ شادی مسلمانان عالم کے لئے ایک شرعی نمونہ تھی۔ جس کے تمام واقعات اگر اسی وقت لکھ لئے جاتے تو مسلمانوں کے لئے ایک کار آمد درس حیات کا خزانہ ہوتا مگر افسوس کہ وقت ہاتھ سے چلا گیا۔ غرض کہ یہاں تو یہاں آپ نے وہاں بھی کہلوادیا تھا کہ کوئی بات خلاف شرع نہ ہو۔

سبحان اللہ ان حضرات نے بھی اس کا اتنا لحاظ کیا کہ لوگ کہہ

کہ پاس شرع ہو تو ایسا ہو۔ حضور پر نور اعلیٰ حضرت کی شادی کے بعد ایک علمائے حق واقعہ بہت دلچسپ پیش کیا اسے لقل کیا جاتا ہے جس سے علمائے حق و متکبرین کا امتیاز ہوتا ہے۔ ایک صاحب رامپور سے حضرت اقدس مولانا نقی علی خاں صاحب کا اسم گرامی سن کر آئے اور ایک فتویٰ پیش کیا جس میں جناب مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ جس پر اکثر علمائے کرام کی مہرباں اور دستخط تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ کمرے میں مولوی صاحب ہیں ان کو دیدیکئے جواب لکھ دیں گے۔ وہ کمرے میں گئے واپس آکر عرض کیا کہ مولوی صاحب نہیں ہیں فقط ایک صاحب زادے صاحب ہیں۔ حضرت نے فرمایا انھیں کو دیدیکئے وہ لکھ دیں گے۔ انھوں نے کہا حضور میں تو آپ کا شہرہ سن کر آیا ہوں، حضرت نے فرمایا۔ آج کل وہی فتویٰ لکھا کرتے ہیں۔ انھیں کو دیدیکئے غرض دیدیا۔ اعلیٰ حضرت نے جو اس فتویٰ کو دیکھا تو ٹھیک نہ تھا۔ آپ نے اس جواب کے خلاف جواب تحریر فرما کر اپنے والد ماجد کی خدمت میں پیش کیا حضرت نے اس کی تصدیق فرمادی۔ وہ صاحب اس فتویٰ کو لے کر رامپور پہنچے جب نواب رامپور کی نظر سے گزر شروع سے آخر تک اس فتویٰ کو پڑھا۔ اور مولانا ارشاد حسین صاحب کو بلایا۔ آپ تشریف لائے تو وہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ مولانا کی حق پسندی و حق گوئی ملاحظہ ہو صاف فرمایا فی الحقیقہ وہی حکم صحیح ہے جو بریلی شریف سے آیا ہے۔ نواب صاحب نے پوچھا پھر اتنے علمائے آپ کے جواب کی تصدیق کس طرح کر دی۔ فرمایا ان حضرات نے مجھ پر میری شہرت

کی وجہ سے اعتماد کیا اور میرے فتویٰ کی تصدیق کی ورنہ حق وہی ہے جو انھوں نے لکھا ہے یہ سن کر دوسرے یہ معلوم کر کے کہ اعلیٰ حضرت کی عمر ۱۹-۲۰ سال کی ہے نواب صاحب کو ملاقات کا شوق ہوا۔ اعلیٰ حضرت قبلہ کو نواب صاحب نے یاد فرمایا۔ آپ اپنے مختصر جناب شیخ فضل حسین صاحب کے ہمراہ جو رامپور کے ڈاک خانے میں اعلیٰ افسر کی حیثیت سے تھے تشریف لے گئے۔ جس وقت آپ نواب صاحب کے یہاں پہنچے کیونکہ آپ دبلے پتلے تھے تو نواب صاحب نے دیکھ کر بہت تعجب کیا اور چاندی کی کرسی پیش کی۔ فرمایا چاندی کا استعمال مرد کو حرام ہے یہ سن کر نواب کچھ خفیف ہوئے اور اپنے پلنگ پر بٹھالیا اور بہت لطف و محبت سے باتیں کرنے لگے، اسی درمیان میں نواب صاحب نے مشورہ دیا کہ ماشاء اللہ آپ فقہ وینیات میں بہت کمال رکھتے ہیں بہتر ہو کہ مولانا عبدالحق صاحب خیر آبادی سے منطق کی اوپر کی کتابیں پڑھ لیں آپ نے فرمایا کہ جناب والد ماجد صاحب نے اجازت دی تو تعمیل ارشاد کی جاتی اتفاق وقت کہ اسی درمیان میں جناب مولانا عبدالحق صاحب بھی تشریف لے آئے نواب صاحب نے اعلیٰ حضرت کا ان سے تعارف کر لیا اور اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ سے علامہ خیر آبادی نے دریافت فرمایا منطق کی کتاب کہاں تک پڑھی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا قاضی مبارک یہ سن کر علامہ خیر آبادی نے شاید عمر کو دیکھ کر مذاق خیال کیا اور دریافت کیا کہ تہذیب پڑھ چکے ہیں جس طنز سے مولانا نے یہ سوال کیا اسی انداز پر آپ نے جواب دیا۔ کیا آپ کے یہاں قاضی مبارک کے بعد تہذیب پڑھائی جاتی ہے یہ جواب سن کر مولانا نے خیال کیا۔ ہاں یہ بھی کچھ ہیں اس لئے

اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسرا سوال کیا کہ بریلی میں آپ کا کیا نفل ہے۔ فرمایا مدرسین، افتاء، تصنیف، کہا جس فن میں تصنیف کرتے ہیں۔ فرمایا جس مسئلہ دینیہ میں ضرورت دیکھی اور رد و ہابیہ میں۔ یہ سن کر علامہ خیر آبادی نے کہا آپ بھی رد و ہابیہ کرتے ہیں۔ ایک وہ ہمارا بدایونی جخطی ہے کہ ہر وقت اسی جخط میں مبتلا رہتا ہے۔ یہ مولانا شاہ عبدالقادر صاحب بدایونی کی طرف اشارہ تھا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی حمایت دین کی وجہ سے بہت عزت کرتے تھے اس لفظ کو سن کر کبیدہ ہوئے اور فرمایا جناب والا سب سے پہلے وہابیہ کا رد حضرت مولانا فضل حق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے والد ماجد نے کیا۔ تحقیق الفتویٰ فی ابطال الطغوسیٰ یہ مستقل کتاب مولوی اسماعیل کے دو میں تصنیف فرمائی یہ سن کر مولانا عبدالحق صاحب نے فرمایا اگر ایسی حافروابی میرے مقابلہ میں رہی تو مجھ سے پڑھنا نہیں ہو سکتا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ کی باتیں سن کر میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ ایسے شخص سے شطرت پڑھنی اپنے علمائے اہل سنت کی توہین و تحقیر سنتی ہوگی اسی وقت پڑھنے کا خیال دل سے دور کر دیا تھا تب آپ کی بات کا ایسا جواب دیا۔

شرف بیعت | جمادی الاولیٰ ۱۲۹۲ھ کا ذکر ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے روئے دوپہر کو سو گئے دیکھا حضرت جد امجد مولانا شاہ رضا علی خاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ ایک سندوچی عطا فرمائی اور فرمایا عنقریب آنے والا ہے وہ شخص جو ہمارے در و دل کی دوا کرے گا۔

دوسرے یا تیسرے روز حضرت مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بدایوں سے تشریف لائے اور اپنے ساتھ ماہرہ شریف لے گئے اور عافی جناب حضرت سید شاہ آل رسول احمد قدس سرہ العزیز کی خدمت میں پہنچے۔ دیکھتے ہی فرمایا آئیے ہم تو کئی روز سے انتظار کر رہے ہیں۔ پھر بیعت فرمایا اور اسی وقت تمام سلاسل کی اجازت بھی عطا فرمادی یعنی خلافت بھی بخش دی اور جو عطیات سلف سے چلے آ رہے تھے وہ بھی سب عطا فرمادی اور ایک سندوچی جو وظیفہ کی سندوچی کے نام سے منسوب تھی عطا فرمائی اور ان وظائف کی اجازت مرحمت فرمائی یہ دیکھ کر تمام مریدین کو جو حاضر خدمت تھے رشک ہوا اور عرض کی حضور اس بیعت پر یہ کرم کیوں ہوا۔ ارشاد فرمایا اے لوگو تم احمد رضا کو کیا جانتے۔ یہ فرما کر رونے لگے اور ارشاد فرمایا قیامت کے دن رب العزت جل و علی ارشاد فرمائے گا کہ آل رسول تو دنیا سے کیا لایا۔ تو میں احمد رضا کو پیش کروں گا (یہ فرمایا کہ) یہ چشم و چراغ خاندان برکات ہیں اور ان کو تیار ہونا پڑتا ہے یہ بالکل تیار آئے تھے انھیں صرف نسبت کی ضرورت تھی۔

پہلا حج اور روضہ انور کی زیارت | آپ ۱۲۹۵ھ میں اپنے والدین ہمراہ حج زیارت روضہ اکرم کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ کے دل مبارک میں اول ہی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم بنی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی خود ارشاد فرماتے ہیں بحمد اللہ تعالیٰ میری ولادت کی تاریخ اس آیت کریمہ میں ہے اَوَّلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَ لَهُمُ رُوحَ مُنَدِّ

جس کا ترجمہ یہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ سے ان کی مدد فرمائی اور اس کا آغاز ہے۔

لَا تَجِدُ مَثَقًا مَّا يَتَّقُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنَّا فَطَرَجَهُ (اے محبوب) نہ پائیں گے آپ ان لوگوں کو جو اللہ و رسول اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ و رسول کے مخالفوں سے دوستی کریں اگرچہ وہ ان کے باپ ان کی اولاد یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلہ کے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعہ سے ان کی مدد فرمائی (اس کے بعد فرمایا) بحمد اللہ تعالیٰ بچپن سے مجھے نفرت ہے اعداء اللہ (یعنی اللہ و رسول کے دشمنوں) سے اور میرے بچوں اور بچوں کے بچوں کو بھی بفضلہ تعالیٰ عداوت اعداء اللہ گھٹی میں پلا دی گئی ہے احد بفضلہ تعالیٰ یہ وعدہ بھی پورا ہوا۔ اُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ بحمد اللہ تعالیٰ اگر میرے قلب کے دو ٹکڑے کئے جائیں تو خدا کی قسم ایک پر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دوسرے پر مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ جل و علی و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو گا۔

حضور کی محبت پر حضور کی محبت پر ایمان کا دار و مدار ہے

فرماتے ہیں لَا تَقْبَلُونَ أَحَدًا كَرِهًا حَتَّى تَأْتُوا أَحِبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَاسٍ مِّنْ بَنِيكُمْ

ترجمہ: تم میں کوئی مسلمان نہ ہو گا جب تک کہ اپنی ماں اپنے

باپ اور سارے جہان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ رکھے۔ ہر مسلمان کا دعویٰ ہے کہ مجھ کو سہارے جہان سے زیادہ حضور سے محبت ہے مگر دوستو دعویٰ کے لئے دلیل ہونا ضروری ہے تو ہمارے دل کے چین جان کو نبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محبت کی دلیل یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا كُنْزُ كَرَمِهِ لِمَنْ كُوْنُ مِنْهُ مَحَبَّةٌ ہوتی ہے وہ ہر وقت اسی کا ذکر کیا کرتا ہے اسی کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ اس موقع پر کیا خوب ارشاد فرمایا ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ۵ میں تو کہا ہی سچا ہوں کہ بندہ ہوں آپ کا پر لطف جب ہے کہہ دیں وہ عالی جناب ہے تو یہی کہ ان کے قبول فرمانے پر دار و مدار سے درہ غلامی کا دعویٰ تو سب ہی کرتے ہیں مگر یہ ضرور کہوں گا کہ سچی محبت ہو تو کیوں نہ قبول ہو جب کہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (اے محبوب) جو اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں آپ ان سے فرما دیجئے کہ میرا اتباع کرو (میری فرماں برداری کرو) تو کیا ہو گا اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کو محبت کی آنکھوں سے نظارہ کرنے سے بہت چلتا ہے کہ پیدائش سے لے کر روز وفات تک کا ایک ایک لمحہ محبت سرکار میں ڈوبا ہوا ہے۔

آپ کی تصنیفات جن کی تعداد چھ سو سے بھی زائد ہے ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام زندگی آپ کی تعریف و توصیف حبیب میں گزری ہے

آپ نے قرآن کریم کی ہر سہ سنت پر عمل فرمایا۔ قرآن مجید
محبوب رب العالمین کا وصف نامہ ہے اس میں حضور کی تعریف
ہے اور تعریف کا مقصد محبوب کو خوش کرنا ہے۔ لہذا قرآن کریم
میں حضور جان نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے
لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں محبوب کی تعریف فرمائی اور
کہیں محبوب کے دوستوں کے تعریف فرمائی اور کہیں محبوب
کے دشمنوں کی مذمت فرما کر محبوب کو خوش کیا۔ کیونکہ دوست
کو خوش کرنے کے تین ہی طریقے ہیں ایک تو خود دوست کی تعریف
کی جائے تو دوست خوش ہوگا دوسرے اس دوست کے دوست
کی تعریف کی جائے تو دوست خوش ہوگا تیسرے دوست کے
دشمن کی برائی کی جائے اس کو برا کہا جائے تو دوست خوش ہوگا۔
اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انھیں تینوں طریقوں پر

عمل فرمایا جب ہی تو اس طرح عرض کرتے ہیں ۵
کرم نعت کے نزدیک تو کچھ نہیں کہ رضائے عجبی ہو سگ حسان عرب
اللہ اللہ یہ ہیں سچے جانتے والے مدنی تاجدار مالک و مختار
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہ حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے نعت خواں مدح گو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن پر
میری جان قربان جس کے سگ بارگاہ پر میری عزیز عورت نثار کہ
اعلیٰ حضرت ان کے کتوں میں قبول فرمائے جانے کی تمنا کرتے ہیں
غرض کہ اعلیٰ حضرت قریب سرہ ہمیشہ ہمیشہ حضرت حسان صحابی
رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے قدم بقدم چلے اور محبت کی
کی جو دلیل حضور نے بتائی تھی اس کی تفسیر اپنے عمل سے بیان
فرمادی پھر کیا وجہ کہ سرکار سے محبت اور عرب کے بیابانوں کی

خاک اڑانے کی آرزو نہ ہو۔ جب آپ کو اس خاک کی یاد آتی ہے
تو اس طرح ارشاد فرماتے ہیں ۵

ہم خاک ہیں اور خاک ہی مادی ہے ہمارا
اللہ ہمیں خاک کرے اپنی طلب میں
اے مدعیو خاک کو تم خاک نہ سمجھے
ہے خاک سے تعمیر مزارِ شہ کو میں
ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک پائی
اللہ اللہ کیا حسرت میں ڈوبا ہوا قطعہ ارشاد فرمایا ہے محبت

اس کو کہتے ہیں دوسرے قصیدہ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں ۵
محمد مظهر کامل ہے حق کی شانِ عزت کا
نظر آتا ہے اس کثرت میں کچھ اندازِ وحدت کا
مدد ہے جو شش گریہ بہادے کوہ اور صحرا
نظر آجائے جلوہ بے حجاب اس پاک تربت کا
ہوئے کجانی ہجران میں ساؤں پرورے کجوا
تصورِ خوب ماندھا آنکھوں نے استازت کا
رضائے خستہ خوش بجز غصیاں سے نگہبانا
یاد کوئے جاناں میں جب دل بے چین ہوتا تو اس طرح دل کو سمجھاتے ۵

لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا
جان دید و وعدہ دیدار پر
شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا
یاد ابرو کر کے تڑپو بلبلو
نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا
دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا
اے رضا ہر کام کا آگ وقت ہے

اور یہ بے چینی اس لئے اور کبھی تھی کہ حضور کے والدین سفرِ حج کی
تیاری کر رہے تھے۔ جان و دل قربان سیدالاش و ابجان صلی اللہ
علیہ وسلم پر کہ ادھر کسی عاشق بیتاب نے ایک آہ کی ادھر فریاد یہی
ہوئی جس کا فہم و درک اس طرح ہوا کہ آپ کے والد ماجد جناب مولانا
فتی علی خاں صاحب تشریف لے رہے ہیں اور ارشاد ہوتا ہے

آمد رضا تم نہیں جلو گے۔ یہ نہ فرمایا کہ کہاں۔ اور نہ اعلیٰ حضرت نے دریافت کیا۔ بلکہ یہ شعر پڑھا۔

جانِ دولِ ہوش و خرو سب تو میرے پیچھے تم نہیں چلتے رہنا سارا تو سامانِ گلاب
اور سفر کا انتظام شروع کر دیا۔ اب کیا تھا دن عید رات شب برأت عجب سماں ہے۔ تمام اعزہ و اقرباء و اجاب ملنے آتے ہیں۔ بہت سے ہر کا بنی کے خیال سے سامان سفر لئے در دولت پر حاضر۔ ادھر مشتاقوں کا ہجوم۔ ہم سفروں کی دھوم اور کوئی مجبور و مخموم اس طرح کہتا ہے۔

ہم بھی چلتے ہیں ذرا قافلے والوں کے ساتھ گھڑیاں تو شہ امیر کی گمشدہ جانے دو
غرض کہ ایک ہجوم عظیم کے ہمراہ اسٹیشن تک تشریف لائے اور گاڑی چھوٹنے پر رخصت کرنے والوں کے آہ و نالے بلند ہوئے اس وقت کا سماں جنھوں نے دیکھا ہے وہی جانیں۔

۲۶ شوال ۱۲۹۵ھ سفر زیارتِ حرمین شریف فرمایا۔ جب حج و عمرہ سے فراغت پائی ایک دن نماز مغرب مقامِ ابراہیم میں ادا کی بعد نماز امام شافعیہ حضرت حسین بن صالح جمال نے مڑ کر دیکھا آپ کی نظر اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے چہرہ انور پر پڑی بغیر تارنا آپ نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ کا دست مبارک پکڑا اور چل دیئے حضور نے بھی کچھ نہ فرمایا اور بلا تکلف چلتے رہے یہاں تک کہ آپ اپنے دولت کدہ پر پہنچے اور دیر تک حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پیشانی کو پکڑ کر فرماتے رہے اِنِّیْ لَاجِدُ ثَوْدَ اللّٰهِ فِیْ هٰذَا الْجَمِیْعِ ترجمہ: بیشک میں اللہ کا ثور اس پیشانی میں پاتا ہوں۔ اس کے بعد صحاح ستہ اور سلسلہ قادریہ کی اجازت اپنے دست مبارک سے نکل کر عنایت فرمائی اور فرمایا تمہارا نام ضیاء الدین احمد ہے

اس سند کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں امام بخاری تک صرف گیارہ واسطے ہیں۔

کیوں کہ آپ کا ارادہ گھر سے ہی مدینہ منورہ کی حاضری کا تھا لہذا اب وہاں کی یاد آتی ہے رہ رہ کر دل کو تڑپاتی ہے مگر مجبور ہیں کہ بغیر قافلہ کے روانہ ہوئے خود کیوں کر جائیں جب انتظار کی گھڑیاں ناقابلِ برداشت ہوئیں تو حجاج کرام کو مخاطب فرما کر یوں کہتے ہیں۔

حاجو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبہ کا کعبہ دیکھو
رکن شامی سے مٹی وحشتِ شام غرت اب مدینہ کو جلو صبح دل آرا دیکھو
آؤ جو دشتہ کوڑ کا بھی دریا دیکھو آب زمزم تو پیسا خوب کچھائیں سائیں
ابر رحمت کا یہاں روزِ رینا دیکھو زیرِ سرباب ملے خوب کرم کے چھینٹے
ان کے مشتاق میں حسرت کا ترشنا دیکھو دھوم دیکھی ہے در کعبہ بیتابوں کی
قصرِ محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلافِ کعبہ
یاں سیہ کاروں کا دامن پرچلنا دیکھو واں مٹیوں کا جگر خوف سے پانی پانا
جلوہ فرمایا ہاں کوئین کا دولہا دیکھو زینتِ کعبہ میں تھا لاکھ عروسوں کا بناؤ
مجرم آؤ یہاں عیدِ دوشنبہ دیکھو جتہ مکہ تھا عید اہل عبادت کے لئے
میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو غور سے سن تو رضا کعبہ سے آتی ہے صدا

اللہ اکبر وہ کیا سماں ہو گا جب سرکارِ ابد قرارِ فقیروں کے
غم گسارِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر حاضری ہوئی ہوگی
سبز گنبد کا نظارہ کیا ہو گا۔ سنہری جالیوں کے سانسے سلام عرض
کیا ہو گا اور سرکار نے جواب سے نوازا ہو گا۔

اے رب تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو حاضری بارگاہ
بیکس پناہ نصیب فرما آمین۔

چودھویں صدی کا مجدد | حدیث شریف۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اِنَّ اللّٰهَ يُبْعَثُ لِهَذِهِ

الْاُمَّةِ عَلٰی رَاسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مِّنْ مُّجِدِّ دُكْھَا مُرَدِّبَهَا۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس امت کے لئے ہر صدی کے سرے پر مجدد دین بھیجتا ہے۔ اس حدیث جلیل کی شرح میں شیخ الاسلام بدر الدین ابدال رسالہ مرضیہ فی نصرۃ مذهب الاشعریہ میں لکھتے ہیں اعلیٰ المجددینا ہد بخلیۃ الظن ممن عارفہ بقراءتہ احوالہ والانتفاع بعلمہ ولا یكون المجدد الا عالم بالعلوم الدینیۃ الظاہرۃ والباطنۃ ناصر للسنۃ فامّا للبدعۃ۔ ترجمہ: مجدد کی شناخت قرائن احوال سے کی جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے علم نے کیا نفع پہنچایا۔ اور مجدد وہی ہوگا جو علوم دینیہ ظاہرہ و باطنہ کا عالم عارف سنت کا مددگار ہوگا۔ بدعت کا اکھاڑنے والا ہوگا۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ چودھویں صدی کا مجدد کون ہوا ہمیں اس جستجو میں آسمانوں پر پرواز کی حاجت نہیں۔ کرۂ زمین کے طواف کی ضرورت نہیں بلکہ ریح ارض مسکون وہ بھی صرف آبادی اسلام۔ وہ بھی صرف آستانجات علمائے کرام کی خاک روئی ہمارے مدعا کو کافی ہے۔

اب ہم ہیں اور پریشوق نگاہیں۔ تمناؤں سے بھرادل۔ نظر اٹھتی ہے تو ہندوستان سے گزر کر سمندر کو طے کر کے اسلام کے مرکز مکہ معظمہ و مدینہ طیبہ زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً کی گلی گلی کا طواف اور کوہِ کوہِ کا چکر لگا رہی ہے کہ عقل سلیم مجاہد علم کی طرف سے علی اور حرمین شریفین کے مفتیان کرام و ائمہ حرمین عظام و جمیع اہل اسلام سے عرض کی کہ حضور بتائیں اور فرمائیں

کہ اس چودھویں صدی کا مجدد کون ہے۔ اس حدیث کریم کا سچا مصداق کون ہے۔ کس کو اللہ تعالیٰ نے علوم دینیہ ظاہرہ و باطنہ کا عالم عارف سنت کا مددگار بنا دیا کس نے بدعت و بد مذہبیت کا کلا گھونٹ دیا۔ کس کے علم نے اسلام اور اہل اسلام کو نفع بخشا۔ تو علماء میں جو ممتاز ہستیاں یعنی حرمین شریفین کے مجدد علماء جنہوں متفقہ فیصلہ سنا دیا کہ اس صدی کا مجدد تو برتی شریف میں امیر الامت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ الحاج ضیاء الدین احمد محمد احمد رضا خاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مقدس ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیٰ ان مبارک علماء حرمین شریفین پر رحمت و کرم کی وہ برزور بارش فرمائے کہ اس مٹی میں ہمارے گناہ غص و خاشاک کی طرح بہہ جائیں جنہوں نے ہماری خواہش کو جانا اور صحیح راہ بتائی۔ الہا بادشاہان حضرات کی قبروں کو نور کے پھولوں سے بھر دے اور ہم کو ان کے صدقے میں مذہب اہل سنت پر قائم رکھ۔ آمین۔

اعلیٰ حضرت کی حیات مقدس کے مبارک حالات دیکھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور یقین

کامل ہو جاتا ہے کہ آپ ہی چودھویں صدی کے مجدد ہیں۔
۱۳۳۵ھ آج ختم پر ہے محرم الحرام شریف کا مبارک ہلال آسمان دنیا پر جلوہ گری فرماتا ہے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان کے باہر مچھانک میں رونق افروز ہیں اجاب و اصحاب اس شمع انجمن کے پروانے گردا گرد حاضر ہیں بعض مسائل میں گفتگو ہو رہی ہے کہ مجدد وقت برشا فرماتے ہیں۔ آج سے

صدی بدل رہی ہے ہمیں بھی بدل جانا چاہیئے۔
جب دوسرے دن فیض و برکات حاصل کرنے والے جمع ہوئے تو یہ عالم دیکھا کہ جو حضرات بغیر جھک بلا تکلف آپ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے آج بات کرنا تو کیا رعب و جلال کی وجہ سے سر اوپر نہیں اٹھتا۔ ہاں یہ دربار اب کس کا دربار ہے اس کا جو چودھویں صدی کا مجدد ہے یعنی امام اہل سنت و وارث انبیاء زینت اولیاء ضیاء الدین احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار ہے۔

اس شمع کے پروانے بھی بڑے
اس دربار کے حاضر باش | مہذب تھے۔ آپ کے سامنے تو کیا آپ کی غیر موجودگی میں بھی لغو اور فحش کلام تو کیا بلکہ دنیا گفتگو پسند نہیں کرتے مگر امور دینیہ اور مسائل کے بارے میں ایسی بے تکلفی کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ عقائد اہل سنت خصوصاً اختلافی مسائل میں مباحث ان حضرات کا مشغلہ تھا۔ اگر کوئی دنیاوی غیر ضروری گفتگو چھیڑ بھی دیتا تو حاضرین صاف کہہ دیتے کہ بھائی یہاں تو ان مسائل کا تذکرہ کرو جن کے لئے یہ خیال ہو کہ کوئی جواب نہ دے سکے گا اور واقعی حاضرین رات دن اسی فکر میں رہتے کہ کوئی مسئلہ ایسا مل جائے کہ اعلیٰ حضرت جواب نہ دے سکیں یا کم از کم اتنا ہی ہو کہ آپ کو اس کے متعلق کتابیں دیکھنا پڑیں مگر یہاں عمر میں ایک بار بھی ایسا نہ ہوا بلکہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ کو پہلے ہی سے ظاہر تھا کہ یہ سوال ہونا والا ہے۔ ادھر سوال کو متکلم نے پورا بھی نہ کیا تھا کہ جواب حاضر یہاں تو خدا داد علم جو سینہ بہ سینہ ملا اس کی انتہائی

نہیں تھی معلوم ہوتا تھا کہ علم و عرفان کا سمندر سینہ مقدسہ میں بہا لے رہا ہے۔

ایک عجیب سوال | حضرت مسجد سے دولت کدہ پر تشریف لارہے ہیں کہ ایک صاحب دور دراز کا سفر طے کر کے حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی حضور ایک مسئلہ دریافت کرنے حاضر ہوا ہوں۔ فرمایا بیان کیجئے۔ عرض کی حضور آرام سے تشریف رکھیں تو میں عرض کروں۔ فرمایا بیان تو کیجئے۔ عرض کی حضور وضو میں چار فرض ہیں۔ کہنیوں تک ہاتھ دھونا۔ سر کے بالوں سے تنھوڑی کے نیچے تک منہ دھونا۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ ٹخنوں تک پاؤں دھونا۔ مگر اس سے پہلے ہاتھ دھونا کھلی کر ناک میں پانی چڑھانا۔ اس کی وجہ کیا ہے میں بہت سے علماء کے پاس گیا۔ مگر ہر ایک نے یہ جواب دیا کہ یہ سنت ہے۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی فعل حکمت و مصلحت سے خالی نہیں تھا۔ اس میں کیا مصلحت تھی۔ فرمایا علماء نے معمولی مسئلہ جان کر توجہ نہیں فرمائی ورنہ کوئی مشکل بات نہ تھی۔ عرض کی حضور ہی توجہ فرمائیں۔ فرمایا وضو کس سے ہوتا ہے۔ عرض کی پانی سے۔ فرمایا پانی کے شرائط کیا ہیں؟ عرض کی رنگ، بو، مزہ، فرمایا رنگ معلوم کرنے کو ہاتھ دھو جاتے ہیں۔ مزہ معلوم کرنے کے لئے ٹکڑی کی جاتی ہے اور بو معلوم کرنے کے لئے ناک میں پانی چڑھایا جاتا ہے۔ جب معلوم ہو گیا پانی ٹھیک ہے فرائض ادا کر لئے جاتے ہیں۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا سید شاہ دیدار علی صاحب فیض صحبت | قبلہ بریلی تشریف لائے اور تشریف لانے کا

سبب سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہرہ تھا۔ عصر کا وقت تھا جماعت کھڑی ہو چکی تھی مسجد کے کنوئیں پر ایک بستی لڑکا نابالغ پانی بھر رہا تھا۔ جلدی کی وجہ سے اسی لڑکے سے پانی طلب فرمایا اس نے کہا مولانا مرے بھرے ہوئے پانی سے آپ کا وضو نہ ہوگا۔ مولانا کو غصہ آگیا اور فرمایا ہم جب کچھ سے لے رہے ہیں تو کیوں نہیں دیتا اس نے کہا مجھے دینے کا اختیار نہیں میں نابالغ ہوں مولانا کو اور غصہ آگیا اور فرمایا ان کا وضو کیسے جائز ہو جاتا ہے جہاں جہاں تو پانی بھرتا ہے اس نے کہا آپ ناراض نہ ہوں وہ لوگ تو مجھ سے مول لیتے ہیں یہ سن کر مولانا دنگ رہ گئے کیوں کہ عالم تھے یاد آگیا کہ از روئے فقہ یہ کچھ صحیح کہہ رہا ہے فوراً خود پانی بھرا وضو کر کے نماز میں شریک ہوئے نماز سے فارغ ہو کر اعلیٰ حضرت کے حضور حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور میں تو آپ کے متعلق سنا کرتا تھا مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ یہاں کے خدمت کاروں کے بچے بھی مفتی ہیں پھر اعلیٰ حضرت سے خلافت و اجازت حاصل کی رحمۃ اللہ علیہ

مولوی محمد حسین صاحب فخری نظامی چشتی میرٹھی

عبادت | نے ابتدائی عمر میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقل فتویٰ کی خدمت چند سال ۱۳۱۳ھ میں انجام دی آ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ضعیف الجثہ اور قلیل الخذا بزرگ تھے اپنا وقت کبھی بیکار صرف نہیں فرماتے تھے۔ ہمہ وقت تالیف و تصنیف و فتویٰ نویسی کا مشغلہ تھا، اسی وجہ سے آپ زمانہ مکان میں تشریف رکھتے تھے کہ عوام کی باتوں میں کام نہ ہوگا یا بہت کم ہوگا اس وجہ سے صرف نماز پنجگانہ کے لئے باہر تشریف

لاتے تاکہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں یا اتفاقہ کسی مہمان سے ملنے باہر آتے۔ البتہ عصر کی نماز کے بعد باہر ہی پھاٹک میں تشریف رکھتے اور وہی وقت عوام کی ملاقات کا تھا۔ تمام عمر جماعت سے نماز التزاماً پڑھی اور باد جو یکہ بید حار مزاج تھے مگر کسی ہی گرمی کیوں نہ ہو ہمیشہ دستار اور انگریز کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے خصوصاً فرض تو کبھی صرف ٹوٹی اور کرتے کے ساتھ ادا نہ کیا۔ اعلیٰ حضرت جس قدر احتیاط سے نماز پڑھتے تھے آج کل یہ بات نظر نہ آئی ہمیشہ میری دو رکعت ان کی ایک رکعت میں ہوتی تھیں اور دوسرے لوگ میری چار رکعت میں چھ بلکہ آٹھ پڑھا کرتے۔ ایک دن نماز عصر پڑھا کر تشریف لے گئے میں مسجد میں ہی رہا کہ ایک صاحب مجھ سے کہتے ہیں کہ حضرت نماز پڑھ رہے ہیں مجھے یقین نہ آیا کہ ابھی تو نماز پڑھا کر گئے ہیں اور عصر کے بعد تو اقل وغیرہ بھی نہیں۔ اور اگر نماز کسی وجہ سے نہیں ہوئی تھی تو حضرت کا ایسا حافظہ نہیں کہ مجھے بھول جاتے میں نے دیکھا تو واقعی پڑھ رہے تھے مجھے بید حیرت ہوئی۔ سلام پھیرنے پر آپ سے عرض کیا ارشاد فرمایا کہ قعدہ اخیرہ میں بعد تشہد میں سانس کی حرکت سے میرے انگریز کے کا بند ٹوٹ گیا تھا چونکہ نماز تشہد پر ختم ہو جاتی ہے اس وجہ سے میں نے نہیں کہا اور گھر جا کر بند درست کر آکر اپنی نماز پھر پڑھ لی۔ ایک مرتبہ آپ کی آنکھیں دکھنے آگئی تھیں اس دوران میں بوقت حاضری مسجد میں متعدد بار ایسا ہوتا کہ کبھی نماز سے پہلے اور کبھی بعد نماز اجاب میں سے کسی کو یا س بولتے اور فرماتے دیکھئے تو آنکھ کے حلقہ سے باہر پانی تو نہیں آیا

دور نہ وضو کر کے نماز اعادہ کرنا ہوگی۔

احترام مسجد | ایک مرتبہ حضور بحالت اعوجگاف اپنی مسجد میں مقیم تھے شب کا وقت جاڑے کا زمانہ اور اس وقت دیر سے شدید بارش مسلسل ہو رہی تھی حضور کو نماز غشاء کے لئے وضو کرنے کی فکر ہوئی کہ بانی تو موجود مگر بارش میں کس جگہ بیٹھ کر وضو کیا جائے بالآخر مسجد کے اندر لحاف گدے کی چار تہہ کر کے اس پر وضو کیا اور ایک قطرہ فرش پر نہ گرنے دیا اور پوری رات جاڑوں کی اور اس پر ہوا اور بارش کا طوفان یوں ہی جاگ کر ہٹھکھٹھک کر کاٹ دئی۔

برسات کا موسم تھا رات کو ہوا کے تیز جھونکے مسجد کے کڑوے تیل کا چراغ بار بار بجل کر دیتے تھے جس کے روشن کرنے میں بارش کی وجہ سے سخت تکلیف ہوتی جس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ خارج مسجد دیا سلائی جلانے کا حکم تھا اس زمانے میں ناروے کی دیا سلائی استعمال کی جاتی تھی جس کے روشن کرنے میں گندھک کی بدبو نکلتی تھی لہذا اس تکلیف کی مدافعت حضور کے خادم حاجی کفایت اللہ صاحب نے یہ کی کہ ایک لالٹین میں معمولی چار سیٹھ لگا کر کبھی میں ارٹری کا تیل ڈالا اور روشن کر کے حضور کے ساتھ ساتھ مسجد کے اندر لے جا کر رکھ دی تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ حضور کی نظر اس پر پڑی ارشاد فرمایا ”حاجی صاحب! آپ نے یہ مسئلہ بارہا سنا ہوگا کہ مسجد میں بدبو دار تیل نہیں جلانا چاہیئے۔ انھوں نے عرض کیا حضور اس میں ارٹری کا تیل ہے فرمایا راہ گیر دیکھ کر کیسے سمجھیں گے کہ اس لالٹین میں ارٹری کا تیل جل رہا ہے۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ دوسروں کو تو فتویٰ

دیا جاتا ہے کہ مٹی کا بدبو دار تیل مسجد میں نہ جلاؤ اور خود مسجد میں لالٹین جلوا رہے ہیں۔ ہاں اگر آپ برابر اس کے پاس بیٹھ ہوئے یہ کہتے رہیں کہ اس لالٹین میں ارٹری کا تیل ہے۔ اس لالٹین میں ارٹری کا تیل ہے تو مضائقہ نہیں چنانچہ حاجی حنا نے فوراً اس لالٹین کو گل کر کے خارج مسجد کر دیا۔

خدمت دین | مولوی محمد حسین صاحب فخری نظامی چشتی میرٹھی فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرٹھ سے بریلی گیا معلوم ہوا طبیعت ناساز ہے۔ ڈاکٹروں نے ملنے اور باتیں کرنے کو منع کر دیا ہے اس وجہ سے شہر سے باہر ایک کوٹھی میں مقیم ہیں اور وہاں عام لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے مگر چونکہ مجھ سے لوگ واقف تھے مجھے پتہ بتا دیا جب میں پہنچا تو دیکھا کہ کوٹھی کا دروازہ بند ہے۔ دستک دینے پر ایک صاحب آئے اور نام پوچھ کر اندر اطلاع کو گئے جب وہاں سے اجازت ملی تب آکر دروازہ کھولا۔ دیکھا بڑا مکان ہے اور صرف دو ایک آدمی ہیں۔ نماز مغرب پڑھ کر حضرت اپنے پٹنگ پر رونق افروز ہوئے۔ ہم لوگ کرسیوں پر بیٹھے بعد چار صاحب پہنچے مفتی اعظم حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں صاحب صدر الشریعہ جناب مولانا ابجد علی صاحب۔ جناب مولوی شمس علی صاحب بریلوی ایک اور کوئی صاحب۔ حضرت کے پٹنگ کے پاس جو کرسیاں تھیں اس پر بیٹھ گئے اعلیٰ حضرت نے ایک گڈی خطوط کی مرٹھا ابجد علی صاحب کو دے کر فرمایا۔ آج تیس خط آئے تھے ایک میں نے کھول لیا ہے یہ ۲۹ گن لیجئے۔ انھوں نے ۲۹ گن کر ایک لفافہ کھولا جس میں کئی ورتی پر چند سوالات تھے وہ

وہ سب سنا گئے حضرت نے پہلے سوال کے جواب میں ایک فقرہ فرما دیا وہ لکھنے لگے اور لکھ کر عرض کی حضور حضرت نے اس کے آگے کا ایک فقرہ فرما دیا وہ لکھ کر پھر حضور کہتے وہ سلسلہ وار اس کے آگے کا فقرہ فرما دیا کرتے اور دوسرے صاحب نے حضور کہنے کے درمیان میں اپنا خط سنانا شروع کیا جب یہ حضور کہتے وہ رک جاتے ہیں تو وہ اپنا خط سنانے لگتے۔ اسی طرح انہوں نے اپنا خط ختم کیا۔ اور ان کو بھی ان کے پہلے سوال کے متعلق جو فقرہ بتانا تھا وہ ارشاد فرمایا اب دونوں صاحب اپنا اپنا فقرہ پورا کرنے کے بعد حضور کہتے اور جواب ملنے پر لکھنا شروع کرتے۔ اسی حالت میں ان دونوں کے حضور سے جتنا وقت بچتا اس میں تیسرے صاحب نے اپنا خط سنانا شروع کیا اور اسی طرح جواب لکھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر مجھے حقیقۃً پسینہ آگیا اور ایک صاحب نے جو میرے قریب بیٹھے تھے اسی حالت میں کچھ مشعلے پوچھے جنہیں سن کر مجھے بہت ملال ہوا اور غصہ بھی آیا کہ اس شخص کو ایسی حالت میں سوال کرنے کا کچھ اختیار نہیں مگر اعلیٰ حضرت نے ذرہ برابر ملال نہ فرمایا اور بہت اطمینان سے ان کو سہی جواب دیئے۔ میں نے اپنی عمر میں ایسے حافظہ کا کوئی شخص نہیں دیکھا اسی طرح وہ ۲۹ خط پورے کئے گئے اور معلوم ہوا کہ ڈاکٹروں نے کام اور بات کرنے کو منع کر دیا ہے حضرت نے صرف یہ مان لیا تھا کہ شب کو اپنے ہاتھ سے تحریر نہ فرمائیں گے اس کا اہتمام کیا تھا جو آپ نے اوپر دیکھا اور دن بھر خود تحریر فرمایا کرتے تھے اور اس قدر جلد تحریر فرماتے تھے کہ کئی صفحات کو اعلیٰ حضرت کے ایک دن کے لکھنے کی نقل دیکھنا ہوتی تھی۔ انہیں کا بیان ہے

میرے بریلی میں قیام کے زمانہ میں حضرت کا ماء الجبین ہوا جس میں بیس مسہل ہوتے ہیں مگر کام مسلسل جاری رہا۔ عزیزوں نے یہ دیکھ کر منع کیا مگر نہ مانے انھوں نے طبیب صاحب سے کہا مسہل کے دن بھی برابر لکھتے ہیں اور قریباً بیس مسہل ہوں گے آنکھوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے طبیب صاحب نے بہت سمجھایا تو یہ ارشاد فرمایا اچھا مسہل کے دن میں خود نہیں لکھوں گا دوسروں سے لکھوا دیا کروں گا اور غیر مسہل کے دن میں خود لکھوں گا

طبیب صاحب نے کہا اسی کو غنیمت سمجھو۔ اس کا یہ انتظام کیا گیا کہ ایک مکان میں چند الماریاں لگا کر اس میں کتابیں رکھ دی گئیں مسہل کے دن حضرت اس مکان میں تشریف لے گئے اور صرف مین دروازہ بند کر دیا گیا۔ اب جو فتویٰ لکھنا ہوتا اس کا کچھ مضمون لکھا کر مجھ سے فرماتے کہ الماری میں فلاں جلد ہے نکال لو۔ اکثر کتابیں مصری طائپ کی کئی جلدوں میں تھیں مجھ سے فرماتے اتنے صفحے لوٹ لو اور فلاں صفحہ پر اتنی سطروں کے بعد یہ مضمون شروع ہوا ہے اسے نقل کر دو میں وہ فقرہ دیکھ کر پورا مضمون لکھنا اور سخت متحیر ہوتا کہ وہ کون سا وقت ملا تھا کہ جس میں صفحہ اور سطر گن کر رکھے گئے تھے غرض کہ ان کا حافظہ اور روحانی باتیں ہم لوگوں کی سمجھ سے باہر تھیں۔

ذہانت | ملک العلماء جناب مولانا ظفر الدین صاحب قبلہ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ بیٹی بھیمت تشریف لے گئے اور حضرت مولانا وحسی احمد صاحب محدث سورتی قدس سرہ کے ہمان ہوئے اثنائے گفتگو میں عقود الدریہ فی تنقیح الفاہ الحامدیہ کا ذکر نکلا حضرت محدث سورتی صاحب نے فرمایا کہ میرے

کتاب خانہ میں ہے اتفاق وقت بادیہ ویکہ اعلیٰ حضرت کے کتب خانہ میں کتابوں کا کافی ذخیرہ تھا اور ہر سال محفل رقم کی نئی نئی کتابیں آیا کرتی تھیں مگر اس وقت تک عقود الدربہ منکوانے کا اتفاق نہ ہوا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے نہیں دیکھی ہے جاتے وقت میرے ساتھ کر دیجئے گا۔ حضرت محدث سورتی صاحب نے بہ خوشی قبول کیا اور کتاب لاکر حاضر کر دی مگر ساتھ ساتھ فرمادیا ملا خطہ فرمالیں تو بیچ دیکھا اس لئے کہ آپ کے یہاں تو بہت کتابیں ہیں۔ میرے پاس یہی گنتی کی چند کتابیں ہیں جن سے فتویٰ دیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا۔ اعلیٰ حضرت کا قصد اسی دن وابسی کا تھا۔ مگر اعلیٰ حضرت کے ایک جاں نثار مرید نے حضرت کی دعوت کی اس وجہ سے رگ جانا پڑا۔ شرب کو اعلیٰ حضرت نے عقود الدربہ جو ایک ضخیم کتاب دو جلدوں میں تھی ملاحظہ فرمایا دو ہفتے دن دوپہر ظہر کی نماز پڑھ کر گاڑی کا وقت تھا۔ بڑی شریف روئے کا قصد فرمایا جب اسباب درست کیا جانے لگا تو عقود الدربہ کو بجائے سامان میں رکھنے کے فرمایا کہ محدث صاحب کو دے دیجئے تجب ہو کہ قصد لے جانے کا تھا واپس کیوں فرما رہے ہیں لیکن کچھ بولنے کی ہمت نہ ہوئی۔ حضرت محدث صاحب کی خدمت میں نہیں حاضر ہوا وہ اعلیٰ حضرت سے ملنے اور اسٹیشن تک ساتھ جانے کے لئے زمانہ مکان سے تشریف لایا رہے تھے کہ میں نے اعلیٰ حضرت کا ارشاد فرمایا ہوا جملہ عرض کیا اور اس کتاب کو لئے ہوئے محدث صاحب کے ساتھ واپس ہوا۔ حضرت محدث صاحب نے فرمایا کہ میرے اس کہنے کا کجب ملاحظہ فرمالیں بھیج دیجئے گا۔ ملال ہوا کہ اس کتاب کو واپس کیا۔ فرمایا قصد بری ساتھ لے جانے کا

اور کل ہی جاتا تو اس کتاب کو ساتھ لے جاتا لیکن جب کل جانا نہ ہوا تو شب میں اور صبح کے وقت پوری کتاب دیکھ لی اب لے جانے کی ضرورت نہ رہی۔ حضرت محدث سورتی صاحب نے فرمایا۔ ایک مرتبہ دیکھ لینا کافی ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسا ہے کہ دو تین مہینہ تک تو جہاں کی عباد کی ضرورت ہوگی فتویٰ لکھ دوں گا اور مضمون تو انشاء اللہ عمر بھر کے لئے محفوظ ہو گیا۔

اہل اسلام سے محبت اور دشمن اسلام سے عداوت
یہ آپ کا خاص وصف تھا جس سے کسی کو انکار نہیں ہمیشہ اللہ و رسول سے محبت رکھنے والے کو اپنا عزیز جانا۔ اور اللہ و رسول کے دشمن کو اپنا دشمن جانا۔ بلکہ اپنے مخالف سے کبھی کج خلقی سے پیش نہ آئے خوش خلقی کا یہ عالم کہ جس سے ایک بار کلام فرمایا اس کے دل کو موہ لیا کبھی دشمن اسے بھی سخت سلامی نہ فرمائی۔ ہمیشہ علم سے کام لیا اور دین کے دشمن سے کبھی نرمی نہ برتی کیوں نہ ہو کہ آپ حضور اکرم مولائے اعظم ایس الساکین رحمۃ اللعالمین محمد رسول اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نائب تھے۔ حضور ربوہ رشحاف یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بھی تو یہی اخلاق کہ یہاں تھے کہ آپ پر کوڑا ڈالا جاتا ہے۔ آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں سز قتل کہ آپ کو طرح طرح سے ایذا دی جائیں مگر آپ عفو و کرم سے کام لیتے اور جب دین پر حملہ ہوتا تو آپ اپنی زبان مبارک سے بھی دعائے ہلاکت فرماتے کہ جو کو خطین وہ دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔
اللہم اھلک الکفر والمستدعة ترجمہ: اے اللہ ہلاک فرما کافروں و مشرکوں اور

اور بد مذہبوں کو اور دست مبارک میں تلوار بھی پکڑی اور مسلمانوں کو حکم بھی دیا کہ ان کو قتل کرو۔ صحابہ کرام غیر کچھ اسی پر عمل کرتے رہے اور ان کے تمام اموال لوٹے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا وغیرہ وغیرہ تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام و التسلیم کے چاہنے والوں کا یہ دستور کیوں نہ ہو کہ اپنی ذات کے دشمن کو دشمن نہ جانیں اپنے مخالف کو مخالف نہ جانیں۔ اپنے کو برا کہنے والے اپنے کو ایدا دینے والے کو برا نہ کہے اس سے بدلہ نہ لے جائے وہ مشرک و کافر ہی کیوں نہ ہو اور جب دن کا معاملہ آجائے کوئی خدا و رسول کو برا کہے ان کی شان میں ادنیٰ گستاخی کرے تو پھر خاموش بیٹھے ہاتھ سے جہاد کرے قلم سے رد کرے زبان سے مذہب لے کرے دل سے برا جائے چاہے اپنا عزیز جگر پارہ ہی کیوں نہ ہو۔

بس اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ہی عمل رہا اس کے خلاف نہ کوئی بات زبان مبارک سے نکلی نہ قلم سے تحریر فرمائی حالانکہ بے دینوں نے مغلظات نکالیاں، لغافوں میں رجمی کر کے بھیجیں اختیارات کے کالم کے کالم سیاہ دلوں نے سیاہ کر ڈالے آپ کے خلاف کتابیں افترا اور بہتان سے بھر دیں مگر آپ کی کسی کتاب میں یہ لفظ بھی نہیں ملے گا کہ مجھے فلاں نے یہ الزام دیا اور میں ایسا نہیں ہوں۔

ایک دن اسی قسم کا ایک خط گالیوں سے بھرا ہوا کسی صاحب کا آیا حضرت ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب نے چند سطریں پڑھ کر اس کو علیحدہ رکھ دیا اور عرض کیا کہ کسی وہابی نے اپنی نثرافت کا ثبوت دیا ہے ایک مرید صاحب نے جو نئے نئے حلقہ ارادت میں آئے تھے اس خط کو اٹھا لیا اور پڑھنے لگے اتفاقاً

کہ بھیجنے والے کا جو نام اور پتہ دیکھا وہ مرید صاحب کے اطران کے تھے اس لئے ان کو اور بھی زیادہ لہج ہو اس وقت تو وہ خاموش رہے لیکن جب اعلیٰ حضرت مغرب کی نماز کے بعد مکان تشریف لے جا گئے حضرت کو روک کر کہا اس وقت جو خط میں نے پڑھا۔ جسے مولانا ظفر الدین صاحب نے ذرا پڑھ کر چھوڑ دیا تھا کسی بد تمیز نہایت ہی کمینہ پن کو راہ دی ہے اس میں گالیاں لکھ کر بھیجی ہیں میری رائے ہے کہ ان پر مقدمہ کیا جائے اسے لوگوں کو قرار دینی سزا دلوائی جائے تاکہ دوسروں کے لئے ذریعہ عبرت و نصیحت ہو۔ ورنہ دوسروں کو بھی ایسی جرأت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تشریف رکھیے۔ اندر تشریف لے گئے اور دس پندرہ خطوط دست مبارک میں لئے ہوئے تشریف لائے اور فرمایا ان کو پڑھئے ہم لوگ متحیر تھے کہ کس قسم کے خطوط ہیں خیال ہوا کہ شاید اسی قسم کے گالی نامہ ہوں گے جن کے پڑھوانے سے یہ مقصود ہوگا کہ اس قسم کے خط آج کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانے سے آرہے ہیں۔ میں اس کا عادی ہوں لیکن خط پڑھتے جاتے تھے اور ان صاحب کا چہرہ خوشی سے سے دھکتا جاتا تھا آخر جب سب پڑھ چکے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلے ان تعریف کرنے والوں تعریف کا پتل باندھنے والوں کو انعام اکرام جاگیر و عطیات سے مالا مال کر دیجئے پھر گالی دینے والوں کو سزا دلوانے کی فکر کیجئے گا انھوں نے اپنی مجبوری و معذوری ظاہر کی اور کہا کہ جی تو یہی چاہتا ہے کہ ان سب کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے کہ نہ صرف ان کو بلکہ ان کے شتہائست کو کافی ہو مگر میری وسعت سے باہر ہے فرمایا جب آپ تخلص کو نفع نہیں پہنچا سکے تو مخالف کو نقصان بھی نہ پہنچائیے۔ کمال امر ہو چکا کسب کر رہیں۔

ادرجب دشمن دین کی دشمنی اور حاسدین کی مخالفت زور
پکڑتی تھی نفس سرکش مجبور کرتا کہ ان کو جواب دیا جائے ادھر اجاب
منہیں کرتے کہ ہم جواب دیں مگر آپ فرماتے کہ میں نے سرکار میں
استغاثہ پیش کر دیا ہے آپ حضرات مطمئن رہیں اس کے بعد ایک
کاغذ عنایت فرمایا یہ یاد نہیں کہ حاضرین میں سے کس کو دیا اور حکم
فرمایا یہ استغاثہ کی نقل ہے بلند آواز سے پڑھئے دیکھئے پریتہ چلا کہ
بارگاہ غوثیت مآب سے استغاثت طلب فرمائی گئی ہے۔

طلب کا منہ کس قابل ہے یا غوث
دہائی یا محی الدیس دہائی
وہ سنگیں بدعتیں وہ تیزی کفر
عز و ما قاتلہ عند القتال
ترے سونے سے سویا بخت دیں جاگ
خدا رانا خدا آ دے سہارا
جلادے دیں۔ جلادے کفر والی
تراقت اور پڑے یوں دین پرقت
رہی ہاں شامت اعمال یہ بھی
غیور اپنی غیرت کا تصدق
خدا را مرم خاک قدم دے
نہ دیکھوں شکل مشکل تیرے آگے
وہ گھیرا رشتہ شرک حقنی نے
کیے ترساؤ گبر انتظاب و ابدال
توفت دے میں تمہا کام بسیار
ی و بہر دین مذہب والے حاسد

دیا مجھ کو انھیں محروم چھوڑا
خدا سے لیں لڑائی وہ ہے عطی
حسد سے ان کے سینے پاک کر دے
غذا ہے دق ہی خون استخوان گوشت
عطا میں مقتدر غفار کی ہیں
ترے بابا کا پھر تیسرا کرم ہے
بھرن والے ترا جھالا تو جھالا
شنا مقصود ہے عرض غرض کیا
مرا کیا جرم حق فاصل ہے یا غوث
ہنی قاسم ہے تو وصل ہے یا غوث
کہ بدزدق سے بھی پسل ہے یا غوث
یہ آتش دین کی آکل ہے یا غوث
عبرت بندوں کے دل میں تل ہے یا غوث
یہ منہ ورنہ کس قابل ہے یا غوث
تیرا چھٹا میرا غاسل ہے یا غوث
غرض کا آپ تو کافل ہے یا غوث

رضا کا خاتمہ بالخیر ہو گا
تری رحمت اگر شامل ہے یا غوث

اس کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ بعض حاسدین نے توبہ کی اور
اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے سچے مدح گو ہو گئے اور بعض تنہا و برباد
ہو گئے اور بعض تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے اس سے پتہ چلتا ہے
کہ جو لوگ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے وہ حقیقتہً ایمان و اسلام
سے کوڑے تھے اور اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنے کے لئے اسلام اور شہادت
کا روپ بھرے ہوئے تھے ورنہ جن حضرات نے توبہ کر لی تھی ان کو بھی
توبہ نصیب ہو جاتی اور ایک صاحب کا تو اس حالت میں انتقال ہوا کہ
صنم کے آگے سجدہ میں سر رکھا ہوا تھا روح یہ دیکھ کر برداشت نہ
کر سکی اور ان کو اسی حالت میں چھوڑ کر رخصت ہو گئی لا حول
ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور تمام
مسلمانوں کو اپنی اور اپنے محبوب کی محبت میں سرشار رکھے اور
نما کو اپنے پیاروں کا چائے والا بنائے آمین۔ اور اے رب جو
تیری اور تیرے حبیب کی شان اقدس میں گستاخیاں کرے یا

گستاخیاں کرنے والوں کو اچھا جانے یا تیرے پیاروں سے عداوت رکھے سم تیری بارگاہ میں تیری ہی عزت و عظمت کا واسطہ پیش کرتے ہیں کہ تو ہمارے اور تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی طرف سے عداوت و نفرت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ آمین۔ آمین۔

قلیل الطعام | اعلیٰ حضرت عظیم البرکۃ رضی اللہ عنہ قلیل الخداتہ آپ کی غذا زیادہ سے زیادہ ایک پیالی شوربہ بکری کا بغیر مرتخ کے اور ایک یا ڈیڑھ بسکٹ روے کا اور وہ بھی روزانہ نہیں بسا اوقات ناغہ بھی ہو جاتا تھا۔

مولوی محمد حسین صاحب میرٹھی موجد طلسمی پریس کا بیان ہے کہ ایک سال میں نے بریلی میں رمضان المبارک کی ۲۰ تاریخ سے اعتکاف کیا اعلیٰ حضرت مسجد میں تشریف لاتے تو فرماتے جی بہت چاہتا ہے کہ میں بھی اعتکاف کروں مگر فرصت نہیں ملتی آخر ۲۶ ماہ مبارک کو فرمایا آج سے میں بھی مختلف ہو جاؤں۔ اعلیٰ حضرت بعد اقطار صرف پان کھاتے شام کو کھانا کھاتے کسی دن نہیں دیکھا۔ سحر کو صرف ایک چھوٹے سے پیالے میں فیرنی اور ایک پیالی میں چٹنی آ کر تھی وہ نوش فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں نے دریافت کیا حضور فیرنی اور چٹنی کا کیا جوڑہ فرمایا تمک سے کھانا شروع کرنا اور تمک ہی پر ختم کرنا سنت ہے اس نے یہ چٹنی آتی ہے۔

اسلامی مسادات | جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک صاحب جن کا نام مجھے یاد نہیں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے اور اعلیٰ حضرت بھی کبھی بھی ان کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے ایک مرتبہ حضور ان کے یہاں تشریف فرما تھے کہ ان کے محلہ کا ایک بے چارہ غریب مسلمان ٹوٹی ہوئی

پرائی چارپائی پر جو صحن کے کنارے بڑی کھٹی جھھکتے ہوئے بیٹھا ہی تھا کہ صاحب خانہ نے نہایت کڑوے تیوروں سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا یہاں تک کہ وہ ندامت سے سر جھکائے اٹھ کر چلا گیا حضور کو صاحب خانہ کی اس مغرورانہ روش سے سخت تکلیف پہنچی مگر کچھ فرمایا انہیں کچھ دلوں کے بعد وہ حضور کے یہاں آئے حضور نے اپنی چارپائی پر جگہ دی وہ بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں کہ کرم بخش حجام حضور کا خط بنانے کے لئے آیا وہ اس فکر میں تھے کہ کہاں بیٹھوں حضور نے فرمایا کہ بھائی کرم بخش کھڑے کیوں ہو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور ان صاحب کے برابر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا وہ بیٹھ گئے پھر تو ان صاحب کی یہ کیفیت تھی کہ جیسے سانس بھنکارے مارتا ہے اور فوراً اٹھ کر چلے گئے پھر کبھی نہ آئے جب عرصہ گزر گیا تو حضور نے فرمایا اب فلاں صاحب تشریف نہیں لاتے ہیں پھر خود اسی فرمایا میں ایسے متکبر مغرور شخص سے ملنا نہیں چاہتا۔

خوش طبعی | حضرت سید شاہ اسماعیل حسن میاں صاحب ہارسر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جدی سیدنا شاہ برکت اللہ صاحب قدس سرہ العزیز کے عرس میں اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ تشریف لائے اس سفر میں آپ کے بہنوئی بھی آپ کے ساتھ تھے انھوں نے میرے خادم غلام ثنی سے اس کی ذات پوچھی، اس نے جواب دیا تم پٹھان ہیں۔ اس پر انھوں نے کہا کہ تم ہمارے بھائی ہو۔ انھوں نے غلام ثنی سے دریافت کیا۔ تم کون سے پٹھان ہو چونکہ وہ بوجہ لڑکپن و نادانگی جواب نہ دے سکتا تھا اور بار بار اسے سوال سے چڑ گیا اس نے کہا کون پٹھان چمر پٹھان ہیں اس پر اعلیٰ حضرت نے ازراہ مزاح اپنے بہنوئی سے

فرمایا کہ آپ کی ذات کا آج پتہ چلا کہ یہ اپنے کوچر پٹھان بتاتے ہیں اور آپ انہیں اپنا بھائی بتاتے ہیں۔

سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ حضور مسجد سے تشریف لارہے تھے دیکھا کہ ایک بازیگر کے پاس لوگوں کا مجمع ہے اور پانی کا بھرا ہوا کٹورہ ایک ڈور سے کا سر اڑال کر اسے اٹھا رہا ہے حضور نے اپنے ہائے مبارک سے اپنا جوتہ اتار کر اس کے سامنے ڈال دیا اور فرمایا تو اسے لوٹ دے ہر چند کوشش کی مگر نہ الٹ سکا۔ آخر چپن کر کا نشانہ اقدس میں تشریف لے گئے۔

کرم و سخاوت | سردی کا موسم تھا بعد مہربان علی حضرت حسب معمول پھاٹک میں تشریف لاکر سب لوگوں کو رخصت کر رہے تھے خادم کو دیکھ کر فرمایا آپ کے پاس رضائی نہیں ہے خادم خاموش ہو گیا اس وقت جو رضائی علی حضرت اوڑھے تھے خادم کو اتار کر دیدی اور فرمایا کہ اوڑھے لیجئے خادم نے بعد ادب قدم بوسی کی اور حضرت کے فرمان مبارک کی تعمیل کی اور رضائی اوڑھ لی۔

اعلیٰ حضرت نے جب رضائی مجھے عنایت فرمائی اس کے دو تین دن بعد حضرت کی نئی رضائی تیار ہو کر آنکئی نئی رضائی اوڑھے ہوئے جلدی روز گزرے تھے کہ مسجد میں ایک مسافر صاحب رات کے وقت آئے اور اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ میرے پاس کچھ اوڑھنے کو نہیں ہے علی حضرت نے وہی رضائی ان مسافر صاحب کو عطا فرمادی۔ موسم برسات میں بعض اوقات مسجد کی حاضری بکالت تریخ ہو کر تھی حاجی کفایت اللہ صاحب نے اس تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک چھتری خرید کر نذر کی اور وہ اپنے ہی پاس رکھ لی۔

جب حضور کا نشانہ اقدس سے تشریف لاتے تو حاجی صاحب چھتری لگا کر مسجد تک لے جاتے ابھی کچھ ذق گزرے تھے کہ ایک حاجت مند نے چھتری کا سوال کیا۔ حضور نے فوراً وہ چھتری حاجی صاحب سے دلا دی۔ کا نشانہ اقدس سے کبھی کوئی سائل خالی نہیں پھرتا اس کے علاوہ بیوگان کی امداد ضرورت مندوں کی حاجت روائی کے لئے توکل علی اللہ مہینے مقرر تھے اور یہ اعانت فقط مقامی ہی نہ تھی بلکہ بیرونجات میں بذریعہ مینی آرڈر رقم امداد روانہ فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک صاحب کی خدمت میں مدینہ طیبہ سجاس روپے روانہ کرنے تھے۔ اتفاق وقت کہ حضور کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا علی حضرت نے بارگاہ رسالت میں رجوع کیا کہ سرکار میں نے کچھ بندگان خدا کے مہینے حضور کے بھروسے پر اپنے ذمہ مقرر کر لئے ہیں اگر کل مینی آرڈر سجاس روپے کا روانہ ہو جائے گا تو ڈاک کے جہاز کے وقت پہنچ جائے گا ورنہ تاخیر ہو جائے گی یہ رات حضور کی اسی کرب و بے چینی میں گزری علی اصبح ایک سیٹھ صاحب حاضر آئے ہوئے اور مبلغ اکیاون روپیہ مولوی حسنین رضا خاں صاحب کے ذریعہ مکان میں بطور نذر حاضر کئے اس وقت حضور پر بہت وقت طاری ہوئی اور مذکورہ بالا ضرورت کا انکشاف فرمایا۔ ارشاد ہوا یہ یقیناً سرکاری عطیہ ہے اس لئے کہ اکیاون روپیہ ملنے کے کوئی معنی نہیں سوائے اس کے کہ سجاس روپیہ بھیجنے کے لئے فیس مینی آرڈر بھی تو چاہئے چنانچہ اسی وقت مینی آرڈر کا فارم بھرا گیا اور ڈاک خانہ نکلتے ہی مینی آرڈر روانہ کر دیا گیا۔

ایک مرتبہ ایک ضرورت مند صاحب حاضر خدمت ہوئے تھو نے ارشاد فرمایا اس وقت میرے پاس صرف ساڑھے تین آنے

ہیں اور وہ بھی خطوط کے جوابات کے لئے رکھے تھے۔ اگر آپ فرمائیں تو حاضر کر دیئے جائیں۔ حالانکہ آج کی ڈاک سے ایک مئی آرڈر ڈھائی سو روپے کا آیا تھا اور وہ سب تقسیم کر دیئے گئے۔ پتلے سے آپ آجاتے تو آپ کو کبھی مل جاتا۔ ان بچارے نے آبدیدہ ہو کر نظر بھی کرنی اور حضور نے وہ ساڑھے تین آنے ان کے حوالے کر دیئے یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ حضور نے ڈھائی سو روپے کے آنے اور تقسیم ہو جانے کا ذکر کیوں فرمایا نام و نمود کا تو اس دربار میں کوئی ذکر ہی نہ تھا حقیقت یہ بات تھی کہ ڈھائی سو روپے ہم خدام کے سامنے آئے تھے اسی لئے بعض لوگوں کا دوسرہ فوج کرتے کو خلاف معمول یہ بیان فرمایا اور یہ کوئی نئی بات نہ تھی بارہا دیکھا گیا کہ جس وقت کوئی رقم آئی بکوشش اپنے پاس سے خرچ کر دیا کرتے۔

ایک دن ایک سید صاحب تشریف لائے اور زنانہ دروازے کے قریب جا کر آواز دی ”دلو! سید کو“ اعلیٰ حضرت قبلہ نے اپنی آمدنی سے اخراجات دینیہ کے لئے دو سو روپے ماہوار مقرر فرمایا تھا۔ اس مہینہ کے روپے اسی دن حضرت منجھلے میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاضر کئے تھے جس میں دس کے نوٹ بائس کے نوٹ روپے اٹھنیاں، چوٹیاں، دوٹیاں جیسے سب تھے اس زمانے میں ایک روپے کا نوٹ نہ چلا تھا اسکی کاروائی تھا۔ اعلیٰ حضرت نے سید صاحب کی آواز سنتے ہی آفس بکس کا وہ جھگڑا جس میں تین تین لے کر باہر تشریف لائے اور ان سید صاحب کی خدمت میں پیش کر کے فرمایا حضور یہ حاضر ہیں۔ سید صاحب اس رقم کو دیر تک دیکھتے رہے جو ایک ایک خانہ

میں ایک ایک رقم علیحدہ علیحدہ رکھی ہوئی تھی اس کے بعد چوٹی کے خانہ میں سے ایک چوٹی اٹھائی اور فرمایا بس آپ لے جائیے اسی وقت اعلیٰ حضرت نے اپنے خادم سے فرمایا جب سید صاحب کو دیکھو ایک چوٹی نذر کر دیا کرو ان کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے وہ سید صاحب بھی دانتی سید تھے اور وقت ضرورت بقدر ضرورت ہی سوال کرتے تھے ورنہ اگر وہ چاہتے تو دس بیس روپے کے نوٹ اٹھا لیتے۔ بلکہ اعلیٰ حضرت نے میرے دریافت کرنے پر فرمایا اس وقت سید صاحب اگر پورے دو سو روپے کے نوٹ لے لیتے تو مجھے اصلاً غدر نہ ہوتا میں اسی عرض سے لایا تھی تھا وہ رقم میں نے ایک سائل کے سامنے نہیں پیش کی تھی بلکہ اولاد رسول کی خدمت میں حاضر لایا تھا۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔

سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ موسم بارش میں شب کے وقت سید محمود جان صاحب قادری برکاتی نوری علیہ الرحمۃ ساکن محلہ گردھی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور جو میں مانگوں عطا فرمائیں ارشاد فرمایا سید صاحب میرے امکان میں ہو تو ضرور حاضر کر دوں گا سید صاحب نے عرض کیا کہ حضور کے امکان میں ہے فرمایا تو مجھے کوئی غدر نہیں ہے فرمایا کیا درکار ہے سید صاحب نے عرض کیا صرف ۲۲ گز کپڑا کفن کے لئے چاہتا ہوں۔ چنانچہ صبح بازار کھلتے ہی ۲۲ گز کپڑا منگو کر سید صاحب کو نذر کر دیا۔

انہیں کا بیان ہے کہ جب اعلیٰ حضرت قدس سرہ جبل پور تشریف لے گئے حضرت عبدالاسلام جناب مولانا مولوی عبدالسلام صاحب مدظلہم القدس نے مبلغ ایک ہزار روپیہ ایک سفید چینی کی بڑی قبا میں بھر کر بطور نذر حضور کی خدمت میں پیش کیا جسے قبول فرمایا

ہوئے ارشاد فرمایا۔ مولانا ہی کیا کم تھا جو آپ نے اس وقت تک صرف کیا اور حاجی کفایت اللہ صاحب سے فرمایا اسے رکھ لو اور میرے وظیفہ کی صندوقی اٹھالاؤ۔ حاجی صاحب نے وہ روپے سامنے کمرے میں رکھ دیئے اور وظیفہ کی ہشت پہل صندوقی پیش کی جس کا طول تخمیناً ایک فٹ ہو گا اور جس میں ایک ٹویل سفید کپڑے پر سیاہ ڈورے کے حروف تھے یہ وظیفہ حضرت کو اپنے شیخ سے ملا تھا جسے بعد نماز فجر پڑھا کرتے تھے اور یہ صندوق مقفل رہا کرتا تھا جس کی کنجی حضور اپنے پاس رکھتے تھے اس صندوقی میں بجز وظیفہ کے اور کوئی چیز نہیں رہتی تھی اور نہ اس میں کنجائش تھی کہ دوسری شے رکھی جاتی اب حضور اس صندوقی کو اپنے سامنے رکھ کر کھولتے ہیں اور ڈھکنا بالکل نہیں کھولتے بلکہ سٹوڑا سا اٹھا کر اٹھے ہاتھ سے جھکائے رکھتے ہیں اور سیدھا ہاتھ بار بار بغیر دیکھے اندر ڈالتے اور روپیہ نکالتے اور فردا فردا مولانا کے ملازمین و ملازمہ و خدام و رضا کاران وغیرہم پر نہایت فراخ دلی سے تقسیم فرماتے رہے تعجب ہوتا تھا کہ اس قدر روپے اس صندوقی میں کہاں سے آگئے اور اسی پر پس نہیں ہوا بلکہ مولانا بعد اسلام صاحب کی بہو یعنی برہان میاں صاحب کی اہلیہ کو اور ان کی بچیوں کو طلائی زیورات بلکہ سب سے چھوٹے بچے کے لئے سلایا ہوا کڑتہ ٹوپی اسی صندوقی سے برآمد ہوا حالانکہ وظیفہ کی صندوقی اس دوران سفر میں بسا اوقات وظیفہ پڑھتے میں دیکھی گئی بجز وظیفہ کی کتاب کے اور کچھ نظر پڑا۔

مولانا حسین رضا خاں صاحب نے اسی تعجب کے ساتھ بیان کیا بلکہ انھوں نے یہ بھی کہا کہ نہ صرف مولانا بعد اسلام صاحب ہی اعزہ کے لئے بلکہ خاص خاص سبب صاحب کی بچیوں کے لئے بھی

کافی طلائی زیورات اعلیٰ حضرت نے وظیفہ کی صندوقی میں سے نکال نکال کر عطا فرمائے یہاں تک کہ سیٹھ صاحبوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت کی کیا خدمت کی جو کچھ دعوت اور خاطر مدارات میں صرف کیا اس سے کہیں زائد کے زیورات اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کی بچیوں اور بہوؤں کے لئے عطا فرمائے مولوی حسین خاں صاحب بہت ہی حیرت اور تعجب کے ساتھ یہ کہتے تھے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ زیورات کب اعلیٰ حضرت نے خریدے اور کب اس صندوقی میں رکھے اس کے علاوہ اس صندوقی میں وظیفہ کی کتابوں کے سوا کچھ جگہ بھی نہیں تھی اتنے زیورات اس میں کہاں سے آگئے اور کسے کنجائش ہوئی واقعی یہ واقعہ جس طرح اعلیٰ حضرت کی سیر چشمی کی دلیل اور جو دستخط کاروشن برہان ہے اسی طرح بین کرامت کا پریور ثبوت ہے۔

توکل مولوی محمد ابراہیم صاحب فریدی صدر مدرس مدرسہ شمس العلوم بدایوں کا بیان ہے حضرت ہمدی حسن میاں صاحب سجادہ نشین سرکار کلاں مارہرہ شریف نے فرمایا کہ میں نے اعلیٰ حضرت کے پاس ایک خط بھیجا جس کا جواب بڑی تاخیر سے آیا والا نامہ میں مذکور تھا کہ حضرت شاہزادہ صاحب چونکہ میرے پاس ٹکٹ کے دام نہیں تھے اس لئے غیر معمولی تاخیر ہوئی میں نے خیال کیا ان دنوں مولانا صاحب کے پاس واسوں کی کمی ہے لہذا کچھ فتوحات سنے بھیج دوں میں نے سٹوپا دو سٹوپا مقدار یاد نہیں، کی رقم بذریعہ منی آرڈر بھیج دی جسے مولانا صاحب نے وصول کر لیا اور رسید بھی آگئی کچھ دنوں کے بعد اعلیٰ حضرت کا منی آرڈر آیا جس میں میری بھیجی ہوئی رقم بھی شامل تھی۔ والا نامہ

میں مذکور تھا کہ فقیر کی عادت ہے کہ اپنے ضروریات کے مطابق
تھوڑے روپے رکھ لئے بانی زمان خانے میں بھیج دیئے۔
آپ کے گرامی نامہ کے وصولی سے پہلے وہ روپیہ خرچ ہو چکے تھے
اور گاؤں سے رقم آئی نہیں تھی میں اپنی ضروریات کے لئے کسی
سے طلب نہیں کرتا، ہوں حضرت شاہزادہ صاحب یہاں جو کچھ ہے
آپ ہی کے یہاں کا ہے اگر آپ مجھے کچھ دینا چاہتے ہیں تو حضرت
میاں صاحب کے بیاض سے شجرہ زر کا عمل نقل کرنے بھیج دیجئے
چنانچہ میں نے بیاض سے نقل کر کے بھیج دیا اس کے بعد بریلی
جانا ہوا اعلیٰ حضرت سے ملاقات ہوئی اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا
کہ مکہ معظمہ سے ایک صاحب کا والا نامہ آیا کہ میری دو لڑکیوں کی
شادی ہے اس کے لئے آپ امداد کیجئے میں نے خیال کیا کہ
دونوں لڑکیوں کے لئے ایک ہزار کی رقم کافی ہوگی اسی مقصد
کے لئے شجرہ زر کا عمل کیا۔ عمل کا چالیسواں دن تھا مہول سے
فارغ ہو کر بیٹھا تھا کہ حامد رضا آئے اور ایک بندھا ہوا دریا
دیا اور کہا کہ ایک صاحب ملنے کی خاطر آئے تھے میں نے کہا اس وقت
بالا خانہ پر مہوتی میں مشغول ہیں دوسرے وقت تشریف لائے گا
وہ صاحب یہ رومال دے کر چلے گئے۔ میں نے جب رومال
کھولا اس میں ایک ہزار سے زیادہ رقم تھی خیال کیا کہ زیادہ
کیوں ہے معافی من میں آیا کہ مکہ معظمہ تک پہنچنے کے مصارف
ہیں میں نے فوراً اس عمل کو ہٹا دیا کہ اس سے توکل میں فرق آتا ہے
وہ عمل شمع شبستان رضائیں درج ہے)

سوئے کا نظام | فقیر اپنے والد ماجد صاحب مدظلہ العالی
کے ہمراہ ایک بزرگ جنت علی شاہ حنا

جو بریلی شریف میں نووارد تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر
شرف نیاز حاصل کیا ان بزرگ صاحب نے والد ماجد
صاحب قبلہ کو دیکھتے ہی فرمایا کہ آپ مولانا احمد رضا خاں حنا
سے بہت ہیں والد صاحب نے کہا جی ہاں اس پر فرمایا آپ کے
پیر صاحب کو سونا آتا تھا یہ سن کر فقیر کو تعجب ہوا کہ سوئے سے کیا
مراد ہے مگر جب تحقیق کی تب ان جملوں کی حقیقت روشن ہو گئی
آپ کے خادم کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت ۲۴ گھنٹہ میں صرف
دو گھنٹہ آرام فرماتے اور باقی تمام وقت کتب بینی و
تقصیف کا کام انجام دیتے جب آرام فرماتے تو دائیں طرف
کروٹ اس طرح کہ دونوں ہاتھ ملا کر سر کے نیچے رکھتے اور
پائے مبارک سمیٹ لیتے کبھی کبھی خدام ہاتھ پاؤں دابنے بیٹھ
جاتے اور عرض کرتے حضور تھک گئے ہوں گے دن بھر کام
کرتے کرتے ذرا پائے مبارک دراز فرمائیے تو ہم داب دیں تو
آپ فرماتے کہ پاؤں تو قبر میں پھیلیں گے ایک زمانے تک
اجنباب کو اس کا علم نہ ہو سکا کہ اس طرح استراحت فرمانے کا
مقصد کیا ہے نہ کسی کی مجال کہ آپ سے دریافت کرتا مگر اس
راز کو آپ کے صاحب زادے حضرت حجۃ الاسلام مولانا
حامد رضا خاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے واضح
فرمایا۔ میں اس نظم کو پیش کرتا ہوں اور صرف وہ اشعار
جن میں ان مبارک اشغال کی وضاحت ہے۔

چاند سے ان کے چہرے پر گیسوئے مشک فام دو
دن ہے کھلا ہوا مگر وقت سحر ہے شام دو

ہاتھ کو کان پر رکھو یا باادب سمیٹ لو
 دال ہو ایک ح ہو ایک آخر حرف لام دو
 وسط مشجہ پر سر رکھئے انگوٹھے کا اگر
 نام الہ ہے نکھالا اور الف ہے لام دو

نام خدا ہے ہاتھ میں نام نبی ہے ذات میں
 مہر غلامی ہے پڑی لکھے ہوئے ہیں نام دو
 نام حبیب کی ادا جاگئے سوتے ہوا نام محمدی بنے جم کو یہ نظام دو
 یعنی دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھنے اور پاؤں سمیٹ کر
 سونے سے سریم۔ کہنیاں ح، کمریم، پاؤں دال، گویا
 نام محمد کا نقشہ بن جاتا ہے۔

اس طرح سونے سے فائدہ یہ ہے کہ ستر ہزار فرشتے
 رات بھر اس نام مبارک کے گرد درود شریف پڑھتے ہیں
 اور وہ نقشہ بنانے والے کے نام اعمال میں درج
 ہوتا رہتا ہے۔

الحضرت مفسر کی حیثیت سے | حالانکہ آپ نے مکمل تفسیر

اور صرف اس وجہ سے کہ دیگر امور دینیہ سے رات دن
 فرصت نہیں ملتی آپ کا کوئی لمحہ بیکار نہیں جاتا تھا۔ بلکہ
 پاس بیٹھنے والے اس فکر میں رہتے کہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی
 کا کون سا لمحہ بیکار گزرتا ہے۔ یہاں بیکار وقت ضائع کرنا
 تو درکنار ایک ایک وقت میں کئی کئی کام انجام دیتے
 اسی وجہ سے آپ نے تفسیر تحریر نہیں فرمائی مگر بعض حضرات
 یوں فرماتے ہیں کہ آپ کی تصنیفات جمع کی جاییں تو شاید

مکمل تفسیر جمع ہو سکتی ہے اور وہ بھی ایسی جامع اور نفیس
 ہوگی کہ جس طرح ترجمہ قرآنی آپ کا اپنے حقائق کا ترجمان ہے
 اسی طرح تفسیر بھی اپنی نظر آب ہوگی۔ میں اس کی دلیل میں
 صرف بسم اللہ شریف کی تفسیر پیش کر سکتا ہوں کہ جس میں حرف
 لفظ بسم کی تفسیر میں ایک تقریر آپ نے فرمائی جس کو قلم بند کر لیا
 گیا ہے اور اس کا نام ”المیلاد النبوی“ ہے۔

ایک مرتبہ حضور پر نور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 مولانا شاہ عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس شریف
 میں بدایوں تشریف لے گئے وہاں نو بجے صبح سے نین بجے تک
 کامل چھ گھنٹے سورۃ الفتح پر حضور کا بیان ہوا پھر فرمایا کہ
 اسی سورۃ مبارکہ کی کچھ آیات کریمہ کی تفسیر ۸۰ جزو فرما کر
 چھوڑ دیا اور فرمایا کہ اتنا وقت کہاں سے لاؤں کہ پورے
 کلام پاک کی تفسیر بیک سکوں واقعی حضرت ممدوح علیہ الرحمۃ
 اگر تفسیر تحریر فرماتے تو نکات ظاہرہ باطنہ اور شرح حقائق و
 معارف انما سمعہم رہبرس لیتنا نظر آتا۔

ترجمہ قرآن کریم | آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ بہت مختصر و
 ترجموں سے حقائق و معرفت میں بے مثل ہے اور کمال یہ ہے کہ باحکام
 صحیح اور بغیر تاویلات کے ایسا جامع ترجمہ فرمایا ہے کہ بڑے بڑے علماء
 مدح گو ہیں بلکہ اشرف علی صاحب پکار اٹھے کہ قرآن کی معرفت اگر
 اس زمانے میں کسی کو حاصل ہے تو وہ احمد رضا خاں صاحب بریلوی
 ہیں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

حفظ قرآن | ایک دن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں:

بعض ناواقف حضرات میرے نام کے ساتھ حافظ بھی لکھ دیا کرتے ہیں۔ سالانہ میں اس منصب کا اہل نہیں ہوں یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی حافظ صاحب کلام پاک کا ایک رکوع پڑھ کر سنا دیا کرتے تو دوبارہ مجھ سے سن لیتے۔ چنانچہ یہ طے پایا اور عشاء کا دعوت فرمانے کے بعد جماعت سے پہلے یہ نشست شروع کر دی گئی اور تیسویں روز آپ نے تیسوں پارے حفظ سنا دیئے اور فرمایا کہ بحمد اللہ ہم نے کلام پاک بالترتیب یاد کر لیا اور یہ اس لئے کہ بندگان خدا کا کہنا غلط نہ ہو۔

وعظ و تقریر | علامہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعظ و تقریر سے بہت احترا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ تقریر کے الفاظ تو ہوا میں اڑ جاتے ہیں کتاب جب تک باقی ہے لوگ اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ آپ سال میں تین وعظ ضرور فرماتے تھے ایک جلسہ دستار بندی کے سالانہ اجلاس میں دوسرا وعظ مجلس میلاد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جو حضور کی طرف سے ہر سال ریح الاول شریف کو صبح ۸ بجے ہوتی تھی یہ محفل مبارک آج تک اسی طرح ہوتی ہے اور حضور مفتی اعظم مولانا مصطفیٰ رضا صاحب مدظلہم العالی اپنی ذات خاص سے اس محفل کو منعقد فرماتے ہیں اور بحمد اللہ تعالیٰ آج بھی بغیر اعلان و پوسٹر کے اتنا مجمع ہوتا ہے کہ مکان و شرک پر جگہ نہیں ملتی اور شرب کو بعد نماز عشاء حضرت مولانا حسن رضا خاں صاحب کے یہاں محفل منعقد ہوتی تھی۔

اور تیسرا وعظ حضرت سید آل رسول صاحب مارہروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ محفل عرس بھی اعلیٰ حضرت کے کاشانہ اقدس پر ہوتی تھی۔ افسوس کہ اعلیٰ حضرت کے مبرا عظمت قلم بندہ ہو سکے۔ سید قناعت علی صاحب و سید ابوب علی صاحب نے کشف کرامت | علامہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت خدمت کی ہے

اور سید قناعت علی صاحب نے نو شادی بھی نہیں کی ہر وقت حضرت کی خدمت میں رہتے اور جب آپ رخصت کا حکم فرماتے تو بجائے گھر جانے کے اسی مسجد میں جا کر سو جاتے اور جب صبح کو اعلیٰ حضرت قبلہ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تو آپ اٹھ کر دست بوسی کرتے اس کے بعد وضو کر کے نماز میں شریک ہوتے۔ ایک دن رات کو خواب ہو گیا۔ آنکھ کھلی فوراً تیمم کر کے مسجد سے باہر آئے کہ اعلیٰ حضرت کو دیکھا۔ حسب عادت دست بوسی کرنی چاہی مگر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ نہیں بڑھایا بلکہ یہ فرما کر آگے بڑھ گئے مصافحہ تو نماز کے بعد کیجئے گا۔ سید صاحب کا شرم سے سر جھک گیا جلد غسل کر کے نماز میں شریک ہوئے۔

کرامت | جناب ابجد علی خاں صاحب مرحوم امبوسوڑی کے رہنے والے تھے آپ شکار کو گئے شکار میں گولی غلط کسی اور کو لگی وہ مر گیا۔ آپ گرفتار ہو گئے اور پولس نے آپ قتل ثابت کر دیا اور پھانسی کا حکم ہو گیا۔ تاریخ سے قبل کچھ لوگ ملنے لکھ اور رونے لگے آپ نے کہا جاؤ آرام کرو اس تاریخ کو گھر پر آکر ملوں گا۔ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے رات فرما دیا ہے کہ ہم نے تجھے چھوڑ دیا۔ سب لوگ چلے گئے پھانسی کی تاریخ پر وہ ملنے لگے اور رونے لگے مگر اللہ کے عقیدہ کہ کہا جاؤ گھر جاؤ میں انشاء اللہ گھر آکر ناشتہ کروں گا اس کے بعد ان کو لے جایا گیا جہاں پھانسی ہوتی تھی پھندہ ڈالنے سے پہلے حسب دستور پوچھا گیا کیا خواہش ہے انھوں نے کہا کیا کرو گے پوچھ کر میرا وقت ابھی نہیں آیا ہے سب حیرت میں تھے یہ کیسا آدمی ہے ادھر ان کو تختہ پر کھڑا کر کے گلے میں پھندا ڈال دیا کہ اتنے میں تار آیا۔ ملکہ و کٹورہ کی تاجپوشی کی خوشی میں اتنے خونی اور اتنے قیدی چھوڑ دیئے جایش فوراً آپ کو تختہ سے لٹا لیا گیا۔

گھر پر کھرام مچا تھا اور لاش کو لائے کا انتظام ہو رہا تھا کہ آپ گھر پہنچے اور کہا کہ میں ابھی تک ناشتہ نہ کیا تھا میں نے کہا کہ یہ دیکھا میں گھر پر آکر ناشتہ کروں گا۔

کرامت حاجی کفایت اللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرید جن کے شوہر ڈاک خانہ میں ملازم تھے غلط منی آرڈر تقسیم ہو جانے کے جرم میں سزا ہو گئی تھی اور آباد میں اپیل دائر کی تھی فیصلے کی تاریخ سے چند یوم قبل وہ مرید اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی۔ آپ نے فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل کثرت سے پڑھیے وہ چلی گئیں۔ درمیان میں کئی مرتبہ حاضر ہو کر عرض کرتیں۔ آپ وہی فرما دیا کرتے یہاں تک کہ فیصلہ کی تاریخ آگئی حاضر ہو کر عرض کی میاں آج تاریخ ہے فرمایا بتاؤ دریا وہی پڑھے جاؤ اور کیا میں خدا سے لڑوں۔ وہ بی بی اتنا سنتے ہی خوف کی میں یہ کہتی ہوئی چل دیں کہ جب اپنا پیڑی نہیں سنتا تو کون سنتے گا جب آپ نے یہ کیفیت دیکھی فوراً آواز دی کہ پان تو کھا لو۔ کہا میاں میرے منہ میں ہے پھر فرما عرض مشکل پٹیں۔ اور اگر زمین پر بیٹھ گئیں۔ آپ نے ہر چند فرمایا اور بیٹھ جاؤ مگر وہ اوپر بیٹھیں آپ نے گھر میں سے پان منگوائے بڑی بی بی سے کہا لیجئے پان کھالیں بڑی بی بی بولیں میاں میرے منہ میں ہے کئی بار کہنے پر جب پان نہ کھایا تو آپ نے خود پان میں چھائی ڈال کر بڑی بی بی کو دیا اور آہستہ فرمایا جھوٹ تو گئے پان کھا لو اب بڑی بی بی نے خوش ہو کر پان کھالیا اور گھر کی طرف چل دیں جب گھر کے قریب پہنچیں بچے دوڑے تم کہاں تھیں تاروالا دھونڈتا پھر رہا ہے خوشی میں گھر کیسے تار لیا اور پڑھوایا معلوم ہوا کہ شوہر بڑی ہو گیا۔

کرامت جناب سید محمود جان صاحب کا کسی مرض کا زخم و آپریشن کی مفصل کیفیت بیان فرمانے پر مذکور ہے کہ اس کو سنتے ہی سید قناعت علی صاحب اپنی قلبی کمزوری کی وجہ سے بیہوش ہو گئے اس وقت ان کے ہوش میں لانے کی ترکیبیں کی گئیں مگر ہوش نہ آیا جب اعلیٰ حضرت نے ان کا سراپہ زانوئے مبارک پر رکھ کر اپنا رومال ڈالا فوراً ہوش آگیا آنکھیں کھول دیں اعلیٰ حضرت کے زانوئے مبارک پر سر دیکھ کر جلد اٹھنا چاہا مگر ضعف کی وجہ سے نہ اٹھ سکے احضور نے ارزاہ شفقت فرمایا لیٹے رہیں یہ شفقت علی الصالحین بہترین مثال

کرامت حاجی کفایت اللہ صاحب کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اپنے ایک مرید حاجی خدا بخش صاحب کے یہاں تشریف لے گئے جب اعلیٰ حضرت ان کے مکان میں تشریف فرما ہوئے تو ان کے لڑکے نے مٹھائی لا کر رکھی کہ گیارہویں شریف کی فاتحہ کر دیجئے حضرت نے اس پر فاتحہ دی اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے اس کے بعد اس لڑکے کی بیوی بھی سامنے سر سے پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو چھپائے ہوئے آکر کھڑی ہو گئی اعلیٰ حضرت سر کو اٹھائیں تو میں سلام کر دیں حضرت نے سر اٹھایا تو اس نے سلام کیا حضرت نے اس کا نام لے کر فرمایا کہ تم یہاں پر یہاں کی ہو۔ وہ عورت حضرت سیدنا شاہ ابوالحسن احمد نوری میاں صاحب ماسری قدس سرہ الخریز سے بیعت تھی۔

کشف و کرامت ایک دن حاجی صاحبان کے استقبال کو اسٹیشن جانا آیا کرتی تھی اس کے آنے میں دیر ہوئی کہ مستری غلام نبی صاحب بغیر کسی سے کہے تانگہ لینے بازار چلے گئے وہاں سے تانگہ لے کر لوٹے دور سے دیکھا کہ فٹن آجگی ہے قیس اتر پڑے اور چار آنے تانگے والے کو دے کر رخصت کر دیا اس واقعہ کا کسی کو علم نہیں چار روز بعد مستری صاحب حاضر خدمت ہوئے تو اعلیٰ حضرت نے ایک چونی عطا فرمائی انھوں نے پوچھا کیسی ہے فرمایا اس روز تانگے والے کو آپ نے دی تھی مستری صاحب کو حیرت ہوئی اور عرض کیا حضور وہ بھی آپ ہی کی تھی مگر دیگر حضرات نے کہا میاں تبرک کو کیوں چھوڑتے ہو انھوں نے لے لی جب تک وہ چونی ان کے پاس رہی بھی بیسے میں کی نہ ہوئی۔

کشف و کرامت ایک صاحب بریلی میں تھے جو علمائے کرام کی کچھ وقت نہیں سمجھتے تھے اور سری مریدی کو پیڑھا کا ٹھوکہ سلا کہتے تھے ان کے خاندان کے چند اجاب اعلیٰ حضرت سے بیعت تھے ایک دن ان حضرات نے انہیں مجبور کیا اور کہا کہ چلو اعلیٰ حضرت کے

زیارت میں کہ تو یہ خیالات فاسدہ و باغ سے نکل جائیں مجبوراً چلے راہ میں ایک
صلوات کی دکان پر گرم گرم امزیاں بن رہی تھیں دیکھ کر کہا اچھا امتیاز کھلاؤ تو حلوں
ان حضرات نے کہا کہ واپسی میں کھلائیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے بیٹھے گئے
کہ تھوڑی دیر میں ایک صاحب بیعت ہونے کے لئے حاضر ہوئے اور ایک ٹوکری میں گرم گرم امتیاز
لا کر رکھ دیں فاتحہ کے بعد سب کو تقسیم ہوئیں اس دربار کا قاعدہ تھا کہ ہر حصہ دار بھی
والے کو بٹل اور بغیر داڑھی والوں کو ایک ایک بچوں کی طرح ملتا۔ لہذا ان صاحب
کو بھی ایک ہی امرتی ملی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ان کو دو ویدیکے بانٹے دے
تے عرفی کی حضور یہ تو بچے ہیں ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی آپ نے تقسیم فرمایا اور
ارشاد فرمایا ان کا دل چاہ رہا ہے ایک اور ویدیکے یہ کرامت دیکھ کر وہ صاحب
چند روز کے بعد بیعت ہوئے اور علماء کی تعظیم کرنے لگے۔

سادات کرام کا احترام مولانا شمس علی خاں صاحب مدظلہم العالی
کے پاس ایک سید صاحب بڑھا کرتے تھے ذہن
کند تھا سبق یاد نہ ہوتا تھا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر
ہو کر عرض کی حضور سید کا لڑکا اگر سبق یاد نہ کرنا ہو تو سزا دی جاسکتی ہے۔
فرمایا مولانا کیا فرماتے ہیں سید زادہ اور سزا پر گز نہیں اس پر عرض کی تو پھر
انہیں پڑھنے کا جابل نہ تھا فرمایا جب مجبور ہو جائے تو یہ نیت کرنی جائے
کہ شاہزادے کے پاؤں میں مٹی لگتی ہے اسے صاف کر رہا ہوں اللہ اکبر
کیا احترام تھا۔

تعظیم سادات کرام علمائے کرام نے اپنی مستند تصانیف میں تحریر فرمایا
یہ کہ جس کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
سے نسبت و اضافت ہے اس کی تعظیم و تکریم اور ان میں سادات کرام
جس سے قبول ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ مستحق توقیر و تعظیم ہیں اور اس پر
پورا عمل کرنے والا ہم نے اعلیٰ حضرت قدس سرہ العزیز کو پایا اس لئے کہ کسی

سید صاحب کو وہ اس کی ذاتی حیثیت اور لیاقت سے نہیں دیکھتے بلکہ اس
حیثیت سے ملاحظہ فرماتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جز ہیں۔ پھر
اس اعتقاد و نظریہ کے بعد جو کچھ ان کی تعظیم و توقیر کی جائے سب درست ہے۔
تیری نسل پاک میں ہے کچھ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا
سید ایدہ علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک کم عمر صاحب زادے خانہ
داری کے کاموں میں امداد کے لئے کاشانہ اقدس میں ملازم ہوئے تھے
معلوم ہوا کہ سید زادے ہیں لہذا گھر والوں کو تاکید فرمادی کہ صاحب زادے
صاحب سے خبردار کوئی کام نہ لیا جائے کہ مخدوم زادے ہیں۔ کھانا وغیرہ جو
فقے کی ضرورت ہو حاضر کی جائے جس تنخواہ کا وعدہ تھا وہ بطور نذرانہ پیش تو
رہے۔ چنانچہ حسب الارشاد تعمیل ہوتی رہی۔ کچھ عرصے کے بعد وہ صاحب زادے
خود ہی تشریف لے گئے۔

انہیں کا بیان ہے کہ حضور کے یہاں مجلس میلاد مبارک میں سادات
کرام کو بہ نسبت اور لوگوں کے دو گنا حصہ بر وقت تقسیم شیرینی ملا کرتا تھا بچوں
اور داڑھی منڈھانے والوں کو ایک حصہ داڑھی والوں کو دو حصے اور سادات
کرام کو چار اور اسی کا اتباع اہل خاندان بھی کرتے ہیں۔ ایک سال بہ موقع
بارہوی شریف ماہ ربیع الاول ہجوم میں سید محمود جان علیہ الرحمۃ کو خلاف معمول
ایک ہی حصہ یعنی دو تشریاں شیرینی کی بلا قصد پیش کی گئیں موصوف غاموشی کے
ساتھ حصہ لے کر سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور
یہاں سے آج مجھے عام حصہ ملا۔ فرمایا سید صاحب تشریف رکھیے اور تقسیم کرنے
والے کی فوراً طلبی ہوئی اور سخت اظہار ناراضگی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا
ابھی ایک سینی (خوان) میں جس قدر حصے آسکیں بھر کر لاؤ۔ چنانچہ فوراً تعمیل
ہوئی سید صاحب نے عرض بھی کیا کہ حضور میرا یہ مقصد نہ تھا یاں قلب کو ضرر
تکلیف ہوئی جسے برداشت نہ کر سکا فرمایا سید صاحب یہ شیرینی تو آپ کو قبول

کرنا ہوگی ورنہ مجھے سخت تکلیف رہے گی اور قاسم شہرینی سے کہا کہ ایک آدمی
مید صاحب کے ساتھ کرو جو اس خان کو مکان پر پہنچا آئے انہوں نے فوراً
تعمیل کی۔

اخلاق کریمہ | اعلیٰ حضرت کی ذات گرامی اُنْحَبُ لِلّٰہِ وَالْبُغْضُ لِلّٰہِ کی
مصدقہ بقی آپ کسی سے محبت فرماتے تو اللہ کے لئے
اور مخالفت فرماتے تو اللہ ہی کے لئے۔ کسی کو کچھ دیتے تو اللہ کے لئے اور
ستغ فرماتے تو اللہ کے لئے۔

ایک دن ایک کم سن صاحب زادے نہایت ہی بے تکلفانہ انداز میں
حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی کہ میری بوارینی والدہ نے آپ کی دعوت کی
ہے کل صبح کو بلایا ہے حضور نے ان سے دریافت فرمایا مجھے دعوت میں کیا
کھلاؤ گے۔ صاحب زادے نے اپنے کرتے کا دامن جو دونوں ہاتھوں سے
پکڑے ہوئے تھے پھیلا دیا جس میں ماش کی دال اور دو چار مرچیں پڑی
ہوئی تھیں کہنے لگے دیکھئے نا یہ دال لایا ہوں حضور نے ان کے سر پر دست
شفقت رکھتے ہوئے فرمایا اچھا میں اور یہ حاجی کفایت اللہ صاحب
کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے اکل دس بجے دن کے آئیں گے اور حاجی حنا
سے فرمایا مکان کا پتہ دریافت کر لیجئے غرض صاحب زادے مکان کا پتہ
بتا کر خوش خوش چلے گئے دوسرے دن وقت حین پر حضور عھائے مبارک
ہاتھ میں لئے ہوئے باہر تشریف لائے اور حاجی صاحب سے فرمایا چلئے انھوں
نے عرض کیا کہاں۔ فرمایا ان صاحب زادے کے یہاں دعوت کا وعدہ جو کیا
ہے آپ کو مکان کا پتہ معلوم ہو گیا ہے یا نہیں عرض کی ہاں حضور مسکو پور
میں ہے اور ساتھ ہوئے جس وقت مکان پر پہنچے تو وہ صاحب زادے
دروازے پر کھڑے انتظار میں تھے حضور کو دیکھتے ہی یہ کہتے ہوئے بھاگے
ارے مولوی صاحب آگئے مکان کے اندر چلے گئے دروازے میں ایک چھپر

پڑا تھا وہاں کھڑے ہو کر حضور انتظار فرمانے لگے۔ کچھ دیر بعد ایک بوسیدہ
چٹائی آئی اور ڈھیلیا میں موٹی موٹی باجرہ کی روٹیاں اور مٹی کی رکابی میں
وہی ماش کی دال جس میں مرچوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے لاکر رکھ دی اور
کہنے لگے لو کھاؤ۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا کھانا ہوں۔ ہاتھ دھونے کے
لئے پانی لے آئے اور حروہ صاحب زادے پانی لینے کے لیے گئے اور ادھر
حاجی صاحب نے کہا حضور یہ مکان نقارچی کا ہے حضور یہ سن کر کبیدہ خاطر
ہوئے اور طنزاً فرمایا ابھی کیوں کہا کھانا کھانے کے بعد کہا ہوتا اتنے میں
صاحب زادے پانی لے کر آگئے۔ حضور نے دریافت فرمایا آپ کے والد
صاحب کہاں ہیں اور کیا کام کرتے ہیں دروازے کے پردے میں سے ان
صاحب زادے کی والدہ نے عرض کیا حضور میرے شوہر کا انتقال ہوا
وہ کسی زمانہ میں نوبت بجاتے تھے اس کے بعد توبہ کر لی تھی۔ اب مرث
یہ لڑکا ہے جو راج مزدوروں کے ساتھ مزدوری کرتا ہے حضور نے الحمد للہ
کہا اور دعائے خیر و برکت فرمائی حاجی صاحب نے حضور کے ہاتھ دھوئے
اور خود ہاتھ دھو کر شریک طعام ہو گئے مگر دل ہی دل میں حاجی صاحب
کے یہ خیال گشت گرد ہاتھ کھانے میں بہت احتیاط ہے۔ غذا
میں سوچی کا بسکٹ استعمال ہے یہ روٹی اور وہ بھی باجرے کی اور اس پر
ماش کی دال کس طرح تناول فرمائیں گے مگر قربان اس اخلاق اور
دل داری کے کہ میزبان کی خوشی کے لئے خوب سیر ہو کر کھایا حاجی صاحب
فرماتے تھے کہ میں جب تک کھاتا رہا حضور بھی برابر تناول فرماتے رہے وہاں
کی دایسی پر حاجی صاحب کے شبہ کو رفع فرمانے کے لئے ارشاد فرمایا اگر ایسی
خلیص کی دعوت روز و تو میں روز قبول کر لوں۔

ایک صاحب اعلیٰ حضرت کو دعوت دے کر چلے گئے دوسرے دن کار
آئی اعلیٰ حضرت نے مولانا ظفر الدین صاحب قبلہ سے فرمایا مولانا آپ بھی

بھی چلیں۔ مکان پر کاڑی پہنچی تو میزبان صاحب منتظر تھے مکان میں ایک چارپائی پر بٹھایا اور ہاتھ دھلانے کے بعد ایک ڈھلیا میں چند روٹیاں اور نیمہ جو غلابا کائے کے گوشت کا کھارکھ گئے یہ دیکھ کر مولانا کو الجھن ہوئی اور دل میں یہ خیال ہوا کہ اعلیٰ حضرت تو کائے کا گوشت تناول نہیں فرماتے اگر شور بے دار ہوتا تو سڑبا ہی پر اکتفا فرماتے اسی خیال میں تھے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے **بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یُفْرَحُ اَنْفَمُ شَیْءٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَحَمْدُ الشَّیْخِ الْاَکْبَرِ** پھر مسلمان جو کچھ کھائے ہرگز ضرر نہ دے گا۔ مولانا سمجھ گئے کہ میرے شبہ کا جواب ہے میزبان صاحب مولانا کے ملاقاتی تھے جب کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے آئے تو ان سے کہا کہ اس غربت کی حالت میں آپ کو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی ضرورت ہی کیا تھی۔ بولے کہ غربت ہی کی وجہ سے تو اعلیٰ حضرت کی دعوت کی تاکہ اعلیٰ حضرت کے قدم مبارک میرے یہاں پہنچیں۔ نان نمک جو کچھ ہو سکے حاضر خدمت کروں حضور کھانے کے بعد دعا فرمائیں تو گھر کی نیستی دور ہو اور خوش حالی آئے اور برکاتِ دین و دنیا حاصل ہوں۔ مولوی محمد حسین صاحب موجد طلسمی پریس کا بیان ہے کہ اعلیٰ حضرت قدس سرہ اعتکاف میں تھے بعد افطار ایک روز انہیں آئے چونکہ پان کے از حد عادی تھے ناگواری پیدا ہوئی مغرب سے تقریباً دو گھنٹہ بعد گھر کا ملازم بچہ پان لایا حضرت نے اسے ایک چیت مار کر فرمایا اسی دیر میں لایا بعد سحر کے وقت سحری کھا کر مسجد کے باہر دروازے پر تشریف لائے اس وقت رحیم اللہ خاں ملازم اور میں دو شخص مسجد میں تھے فرمایا آپ صاحبان میرے کام میں مغل نہ ہوں۔ میں گھبرایا اور عرض کی حضور تم تو خدام ہیں مغل ہونا کیا معنی، بعد اس بچہ کو بلوایا جو شام کو پان دیر میں لایا تھا اور فرمایا اگر شام کو میں نے غلطی کی جو تمہارے چیت ماری دیر سے بھیجنے والے کا قصور تھا تم بے قصور تھے لہذا تم میرے سر پر چیت مار کر بدلہ لو اور ٹوپی اتار کر اصرار

فرما رہے ہیں ہم دونوں بہت مضطرب اور دم بخود پریشان اور وہ کچھ بھی پریشان ہو کر کانپنے لگا اس نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا حضور میں نے معاف کیا، فرمایا تم نابالغ ہو تمہیں معاف کرنے کا حق نہیں بدلہ لے لو مگر وہ نہ بولے بعد میں اپنا بکس منگو کر اٹھی بھر پیسے کالے وہ پیسے دکھا کر کہا میں تم کو یہ دوں گا۔ تم بدلہ لو مگر وہ سچا رہ ہی کہتا رہا حضور میں نے معاف کیا آخر کار اعلیٰ حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر مبارک پر اس کے ہاتھ سے چپتی لگا پیش پھر اس کو پیسے دے کر رخصت کیا۔

سفر مبارک | اعلیٰ حضرت عظیم البرکۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سفر فرماتے جب مشتاقانِ دیدار کے اصرار پر یا کسی اشد ضرورت پر سفر فرماتے تو اپنے سفر مبارک کو اس شہر یا بستی میں کسی ولی اللہ یا کسی اللہ والے کے مزار مبارک پر حاضری کی نیت سے قصد فرماتے تاکہ گھر سے نکلنے سے واپسی تک ثواب اور اجر عظیم کے مستحق ہوں۔

اسی طرح پہلی بھیت شریف تشریف لے گئے شاید حضرت قبلہ محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بلانے سے جب اسٹیشن پر اترے فرمایا ہم پہلے شاہ جی محمد شیرمیاں سے ملاقات کریں گے جب وہاں پہنچے دیکھا کہ حضرت شاہ جی میاں قبلہ چند عورتوں کو بے حجاب بحیث فرما رہے ہیں۔ آپ واپس تشریف لائے دوسرا کوئی ہوتا تو بگڑ جاتا مگر ولی راوی می ثناء کا مصنفون تھا شاہ جی میاں خود گھر پر تشریف لائے اور مسکرا کر فرمایا کہ مولوی فقیر کی کیا ہے بچوں میں بچہ ہے عورتوں میں عورت ہے مردوں میں مرد ہے مگر کچھ بھی کمال محبت اور باس شرع سے فرمایا مولانا آئندہ اب میں عورتوں کو پس پردہ بٹھا کر بحیث کیا کروں گا اور اعلیٰ حضرت کو اسٹیشن تک پہنچانے آئے سبحان اللہ اہل اللہ ایسے ہوتے ہیں۔

فقیر اور عالم | اکثر خلاف شرع بنے ہوئے فقیر اور عالم سے کبھی نہیں منی

مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ والا کبھی اللہ کے احکام کی مخالفت نہیں کرتا۔ لہذا ایک مجذوب دینا میاں جو پور بی تھے بریلی کا ہر مند مسلم بچہ کچھ ان کے نام سے واقف ہے انھوں نے ایک دفعہ ٹرین کو اپنی کرامت سے روک دیا تھا آپ ایک دن محلہ سوداگران تشریف لے گئے تو سوداگری محلہ سے اعلیٰ حضرت کی حیات سے آج تک کسی مجذوب کی گزرتے بھی نہیں دیکھا یہ مصلحت اسی واقعہ سے ظاہر ہو جائے گی جب آپ مسجد کے قریب پہنچے تو اعلیٰ حضرت قبلہ مکان سے تشریف لارہے تھے دینا میاں آپ کو دیکھ کر بھاگے اور ایک گلی میں چھپ گئے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھا پہچانا اور کہا کیوں بھاگتے ہو میاں؟ فرمایا! بامولوا آرو ہے۔ لوگوں نے کہا مولوی صاحب آرہے ہیں تو کیا ہوا۔ فرمایا گھنٹوں پر ہاتھ رکھ کر پھر ج کھلے بھٹے ہیں کیونکہ آپ سنگوٹی باندھا کرتے تھے۔

نسبحان اللہ اعلیٰ حضرت قبلہ کی پریشان بارگاہ الہی میں مقبولیت کبڑے بڑے قطب و ابدال آپ کے مرتبہ علیا کی قدر کرتے تھے۔

حاجی کفایت اللہ صاحب کا بیان ہے کہ آپ بنارس تشریف لے گئے ایک دن دوپہر کو ایک جگہ دعوت تھی میں ہمراہ تھا واپسی میں اور کوئی ہمراہ نہ تھا تانگے والے سے آپ نے فرمایا اس طرف چل فلاں مندر کے سامنے سے مجھے حیرت ہوئی کہ اعلیٰ حضرت بنارس کب تشریف لائے اور یہاں کی گلیوں سے کیسے واقف ہوئے اور اس مندر کا نام کب سنا اسی حیرت میں تھا کہ مندر پر تانگہ پہنچا دیکھا کہ ایک سادھو مندر سے نکلا اور تانگہ کی طرف دوڑا آپ نے تانگہ کو روک دیا وہ آیا اور اعلیٰ حضرت کو ادب سے سلام کیا اور کان میں کچھ باتیں ہوئی جو میری سمجھ سے باہر تھیں پھر وہ سادھو مندر میں چلا گیا ادھر تانگہ بھی چل پڑا تب میں نے عرض کی حضور یہ کون تھا فرمایا ابدال وقت میں نے عرض کی حضور مندر میں فرمایا آم کھا بیٹے، پتے نہ گئے۔

عام حالات

تبدیلی لباس | جناب سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ حضور مہتمم میں دو بار حجہ اور سہ شنبہ کو ملبوسات شریف تبدیل فرمایا کرتے تھے ہاں اگرچہ شنبہ کو یوم عیدین یا یوم النبی اکڑ پڑے تو دونوں دن تبدیل نہ کیا ان دونوں تقریبوں کے علاوہ سوایام جمعہ کے اور کسی وجہ سے تبدیل نہ فرماتے حتیٰ کہ حیلانی میاں سلمہ کے ختنہ کی تقریب ایسے روز ہوئی کہ تبدیل لباس کا دن نہ تھا وہی لباس زیب تن رکھا تبدیل نہ فرمایا اگرچہ بعض اعزہ اقراء اور رؤساء شہر مکلف لباس پہن کر آئے تھے مگر حضور اپنا لباس سابق پہنے ہوئے شریک تقریب رہے۔

حدیث نبوی کا وقار | کتب احادیث پر دوسری کتاب نہ رکھتے اگر کسی حدیث کی ترجمانی فرما رہے ہیں اور درمیان میں کوئی شخص بات کاٹتا تو سخت ناراض ہوتے۔

نشست | ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے زانو پر رکھ کر بیٹھنے کو ناپسند فرماتے یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور کے طریق نشست عرصہ کردوں چونکہ کمزور میں ہمیشہ دروہا کرتا تھا اس لئے کاؤ تکبہ پشت مبارک کی پیچھے رکھا کرتے تھے اس سے پیشتر کہ یہ مرض نہ تھا کبھی کاؤ تکبہ استعمال نہ فرمایا کتب بینی یا لکھتے وقت پاؤں مبارک سمیٹ کر دوزا لٹھا رہتے ورنہ سیدھا زانوئے مبارک اکثر اٹھا ہوتا اور دوسرا بچھا رہتا اور بھی بابا زانو ضرور اٹھاتے تو دوہنا بچھا لیا کرتے۔

احترام ذکر محبوب | ذکر میلاد مبارک میں ابتدا سے انتہا تک ادباً کامل دوزا لٹھی منبر شریف پر رہتے اخیر عمر شریف میں پان چھوڑ دیا تھا۔

ورنہ پہلے بان بہت کثرت سے استعمال فرماتے تھے مگر بوقت وعظ بان مطلق دکھاتے تھے بلکہ ایک چھوٹی صراحی شیشہ کی پاس رکھی جاتی اس سے خشکی رفع فرماتے کے لئے غرارہ کر لیا کرتے۔

استراحت | بشکل نام اقدس (محمد) صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم استراحت فرماتا۔ ٹھٹھانہ لگانا۔ جمائی آنے پر انگلی دانتوں میں دبا لینا اور کوئی آواز نہ ہونا قبلہ کی طرف موٹہ کر کے کبھی نہ تھوکانہ قبلہ کی طرف پائے مبارک دراز کرنا نماز پنجگانہ مسجد میں باجماعت ادا کرنا فرض نماز با عمامہ پڑھنا بغیر صوف پڑی دوات سے نفرت کرنا۔ یوہیں لوہے کے قلم سے اجتناب کرنا۔ خط بنواتے وقت اپنا کنگھا اور شیشہ استعمال کرنا مسواک کرنا سر مبارک پھیل ڈولانا

ہر کام داہنی طرف سے شروع کرنا | ناک صاف کرنے اور استنجا فرمانے کے سوا حضور کے ہر فعل کی ابتدا سیدھے ہی جانب سے ہوتی تھی چنانچہ عمامہ مبارک کا شملہ سیدھے شانہ پر رہتا عمامہ مبارک کے پیچ سیدھی جانب ہوتے عمامہ مقدسہ کی بندش اس طور ہوتی کہ بائیں دست مبارک میں گردش اور دہنا دست مبارک پیشانی پر پڑنے کی گرفت کرتا تھا۔

ایک روز جناب سید محمود جان صاحب نوری مرحوم و مخفود نے حضور کے عمامہ باندھنے پر عرض کیا کہ حضور علامہ باندھنے میں الٹا ہاتھ کام کرتا ہے فرمایا اگر سیدھا ہاتھ بٹالیا جائے تو الٹے ہاتھ سے باندھ تو لیجئے اصل بندش تو سیدھے ہی ہاتھ سے ہوتی ہے اگر کسی صاحب کو کوئی شے دینا ہوئی اور اس نے الٹا ہاتھ لینے کو بڑھایا فوراً دست مبارک روک لیتے اور فرماتے سیدھے ہاتھ میں لیجئے الٹے ہاتھ میں شیطان لیتا ہے اعداد و اسم اللہ شریف (۷۸۶)، عام طور سے جب لوگ لکھتے ہیں تو ابتدا سے کرتے ہیں پھر نہ لکھتے ہیں

اُس کے بعد بزرگ اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ پہلے ۴ تحریر فرماتے تھے پھر تباہ نماز جمعہ کے لئے جس وقت تشریف لاتے فرش مسجد پر قدم رکھتے ہی حاضرین سے تقدیم سلام فرماتے اور اسی پر بس نہیں بلکہ جس درجہ میں ورود مسعود ہوتا تقدیم سلام ہوتی جاتی اسکی بھی آنکھیں شاہد ہیں کہ مسجد کے ہر درجہ میں وسطی در سے داخل ہوا کرتے اگرچہ اس پاس کے دروں سے داخل ہونے میں سہولت ہی کیوں نہ ہو۔ نیز بعض اوقات اوراد و وظائف مسجد شریف ہی میں بحالت خرام شٹالو و جزا پڑھا کرتے مگر منتہائے فرش مسجد سے ایسی ہمیشہ قبلہ رو ہو کر ہی ہوتی کبھی پشت کرتے ہوئے کسی نے نہ دیکھا۔

سید ایوب علی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز نماز فجر ادا کرنے کے لئے خلاف معمول کسی قدر حضور کو دیر ہو گئی۔ نمازیوں کی نگاہیں بار بار کا شانہ اقدس کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ عین انتظار میں جلد جلد تشریف لائے اُس وقت برادر م قناعت علی نے ایندھ خیال مجھ سے ظاہر کیا کہ اس تنگ وقت میں دیکھنا یہ ہے حضور سیدھا قدم مسجد میں پہلے رکھتے ہیں یا بایاں مگر قربان اس ذات کریم کے کہ دروازہ مسجد کے زینہ پر جس وقت قدم مبارک پہنچتا ہے تو سیدھا تو سبھی فرش مسجد پر قدم پہنچتا ہے تو سیدھا۔ قدی فرش مسجد پر قدم پہنچتا ہے تو سیدھا آگے صحن مسجد میں ایک صف بھی گئی اس پر قدم پہنچتا ہے تو سیدھا اور اسی پر بس نہیں ہر صف پر تقدیم سیدھے ہی قدم سے فرمائی یہاں تک کہ محراب میں مصطفیٰ پر قدم پاگ سیدھا ہی پہنچتا ہے

ایک دلچسپ واقعہ | اکسین تشریف لے جاتے تو حقہ ساتھ جاتا اور ڈولانا دمی احمد صاحب محدث سورتی کو چائے نوشی کا بہت شوق تھا کہیں جاتے تو سما دار ساتھ جاتا والد صاحب قبلہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سبلی بھیت جانا ہوا ایک مسہری پر علی حضرت قدس سرہ دوسرے پر مولانا دمی احمد صاحب

رحمۃ اللہ علیہ تشریف رکھتے تھے آپ حقہ پی رہے تھے اور وہ چائے۔
اکثر مدین تین طرف کرسیوں اور ٹونڈھوں پر خاموش بیٹھے تھے کہ مولانا
وصی احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ آپ کو حقہ سے
بڑا شوق ہے جنت میں آگ کہاں ملے گی کہ آپ حقہ پییں اعلیٰ حضرت قدس
سرہ نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ مولانا آپ کے سناوار سے لے لی جائے گی۔
پہلا حج بحمد اللہ تعالیٰ اپنے والدین ماجدین کے ہمراہ ادا کیا تھا
دوسرا حج جس کی واپسی پر تین روز طوفان شدید سے مقابلہ کرنا پڑا تھا
سب نے کفن پہن لے تھے مگر آپ نے سب کی پیچینی دیکھ کر بے ساختہ فرمایا
خدا کی قسم یہ جہاز نہ دو بے کا اتنا فرما تا تھا کہ چند منٹ میں طوفان متوقف
ہو گیا اور جہاز نے نجات پالی۔ ماں کی محبت وہ تین شبانہ یوم کی سخت تکلیف
یاد تھی مکان میں قدم رکھتے ہی پہلا لفظ آپ نے یہ فرمایا کہ حج فرض اللہ تعالیٰ
نے ادا فرما دیا۔ اب میری زندگی بھر دوبارہ ارادہ نہ کرنا لگا یہ فرمایا آپ کو یاد
تھا۔ ماں باپ کی ممانعت پر حج نفل جائز نہیں۔

۱۳۳۳ھ میں آپ کے برادر خور و جناب شیعہ میاں صاحب اور خلف
اکبر حضرت مولانا محمد حامد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لئے
 روانہ ہو گئے۔ آپ کے دل مبارک میں یکایک بے حسنی پیدا ہوئی کہ سال ہم
بھی حاضر بارگاہ خیر ہوتے ادھر والدہ اقدس شوق زیارت یہاں تک کہ
جہاز چھوٹنے کا وقت قریب آگیا آخر کار کشش محبت نے مجبور کیا بعد مغرب
ایک صاحب کو اسٹیشن بھیجا کہ دس بجے کی ٹرین سکند کلاس ریز روکر لیں۔

ریز روکر ۲ گھنٹہ پیشتر ہوتا ہے مگر یہ حضرت کی کرامت تھی کہ گاڑی
کرامت سے دو گھنٹہ پہلے سیدٹ ریز رو ہو گئی آپ نماز عشاء سے فارغ
ہوئے شکر م بھی اگئی اب صرف والدہ صاحبہ سے اجازت لینا باقی تھا جو سب
سے ام کام تحفہ حدیث کی وہ دعائیں جو ہر مراد کی ضمان ہیں پڑھتے ہوئے

مکان میں تشریف لے گئے خلاف معمول دیکھا والدہ ماجدہ چادر اوڑھتے
آرام فرماہیں۔ بس آپ نے آنکھیں بند کر کے سر قدموں پر رکھ دیا والدہ صاحبہ
گھبرا کر اٹھ بیٹھیں اور فرمایا کیا ہے عرض کی حج کی اجازت دیجئے پہلا لفظ جو
فرمایا یہ تھا۔ بسم اللہ۔ (خدا حافظ)

آپ اٹے پاؤں تشریف لائے اور شکر میں سوار ہو کر چل دیئے ابھی
آپ اسٹیشن نہ پہنچے ہوں گے کہ والدہ نے فرمایا میں اجازت نہیں دیتی میں
نیند میں تھی بلاؤ آپ جا چکے تھے کون بلاتا جاہ معلوم ہوا کہ گاڑی چھوٹ گئی
اور آپ چلے گئے تو آپ نے فرمایا لیکن کا وہ پانی جس سے آٹن میاں نے
وضو کیا واپسی تک نہ پھینکا جائے لہذا وہ پانی نہیں پھینکا گیا جب
جوش محبت بقیہ کرنا اس پانی کو دیکھا کہ تین اس دوسرے حج سے فارغ
ہو کر ۱۳۳۲ھ ۲۴ صفر کو مدینہ منورہ روانگی ہوئی یعنی کعبۂ تن سے کعبۂ جان
کی طرف چلے اور مکہ معظمہ و مدینہ منورہ کے علماء نے آپ کو کس طرح دل
اور آنکھوں میں جگہ دی خلیل احمد ابنہ بیٹھوی کی کیسی مرمت بنی یہ سارا
واقعہ الملقوظ حقہ دوم میں دیکھئے۔ جس میں قدم قدم پر
کرامتیں ہی کرامتیں ہیں

وصال شریف

رمضان شریف ۱۳۳۹ھ میں اعلیٰ حضرت بھوالی تشریف
کرامت رکھتے تھے اور آپ کی منجھلی صاحب زادی صاحبہ مرحومہ
بغرض علاج نبی تاں میں مقیم تھیں یہ کم و بیش تین برس علیل تھیں اور
ایسی سخت کہ بارہا مایوسی ہو چکی تھی جب نماز عید پڑھانے کے لئے نبی تاں
تشریف لانا ہوا تو صاحب زادی صاحبہ نے اشتداد مرض کی کیفیت عرض
کی۔ سنا چلتے وقت فرمایا کہ میں انشاء اللہ تمہارا دلغ نہ دیکھوں گا حالانکہ

وہ زیادہ بیمار تھیں اور حضور والا کے بعد صرف ۲۲ یوم زندہ رہیں۔ ۲۳
 ربیع الاول ۳۳ھ میں سفر آخرت کیا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ ط
 اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ۲۴ محرم ۱۲۳۳ھ کو بھوالی تشریف لائے
 مسلمانانِ بریلی نے ٹرانسپار استقبال کیا حضور والا کے تشریف لائے
 ہی بریلی میں چہل پہل ہو گئی بھوالی میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
 در پہلو کا دورہ چڑھا تھا اس سے ضعف شدید ہو گیا وطن اور بیرونجات
 کے دور دراز مقامات سے مسلمان عیادت و بیعت کے لئے گروہ گروہ
 آتے جاتے رہے باوجود نقاہت ان کی ہر مجلس عیادت تذکرہ و نصائح
 کا ذخیرہ ہوتی ان کی کبھی کوئی مجلس سرکار دو عالم تاجدار مدینہ صلی اللہ
 تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر شریف سے خالی نہ گئی اس دوران علالت
 میں بھی بکثرت ذکر شاہ رسالت علیہ افضل الصلوٰۃ والتحیہ فرماتے
 اور خصوصیت کے ساتھ اپنے اور تمام مسلمانوں کے لئے حسن خاتمہ کی
 دعا فرماتے تضرع و خشیت کی یہ حالت تھی کہ اکثر احادیث زکان
 ذکر فرماتے کہ خود اپنی نیز حاضرین کی روتے روتے کبھی بندہ جانی اکثر
 اوقات فرماتے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا اس نے سب کچھ پایا بھی فرماتے
 اگر بخش دے اس کا فضل ہے نہ بخشنے تو عدل ہے عرس شریف میں
 قتل کے وقت لوگوں کو مکان میں طلب فرمایا یہ وعظ و نصیحت کی آخری
 صحبت تھی اور رشاد کا پچھلا دور حضرت مولانا ابجد علی صاحب
 قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ وصایا تشریف قلم بند کئے تھے جو خود حضور
 اقدس نے فرمائے تھے انفسوس ہے کہ وہ کہیں کا غذات میں ایسے مل گئے
 کہ ان کا اب تک پتہ نہ چلا روز عرس کچھ کلمات طبیات جو بطور وصایا ارشاد
 ہوئے ان کی برکات سے حصہ لینے کے لئے گوش گزار ناظرین کئے جاتے ہیں
 آخری نصیحت پیارے بھائیو! لَا اُدرِیْ مَا لِقَائِیْ فِیْکُمْ مجھے معلوم نہیں

کہ میں کتنے دن تمہارے اندر ٹھہروں تین ہی وقت ہوتے ہیں بچپن، جوانی
 بڑھاپا بچپن گیا۔ جوانی آئی۔ جوانی کچھ بڑھاپا آیا۔ اب کون سا وقت
 چوتھا آنے والا ہے جس کا انتظار کیا جائے ایک موت ہی باقی ہے اللہ قاد
 ہے کہ ایسی ہزار مجلسیں عطا فرمائے اور آپ سب لوگ ہوں میں ہوں اور
 میں آپ لوگوں کو سناتا رہوں مگر بظاہر اب اس کی امید نہیں اس وقت
 میں دو وجہیں آپ لوگوں کو کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اللہ و رسول
 رجل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دوسری خود میری تم مصطفیٰ
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھولی بھیڑی ہو۔ بھیڑیے تمہارے چاروں
 طرف ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں پہکائیں۔ ہمیں فتنے میں ڈالیں۔ ہمیں
 انے ساتھ جہنم میں لے جائیں۔ ان سے بچو اور دور بھاگو۔ دیوبندی ہوئے
 رافضی ہوئے۔ نیچری ہوئے۔ قادیانی ہوئے۔ غرض کتنے ہی فرقے ہوئے یہ
 سب بھیڑیے ہیں تمہارے ایمان کی ہتھاک میں ہیں۔ ان کے حملوں سے
 ایمان کو بچاؤ۔

حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب العزت جل جلالہ کے نور ہیں۔
 حضور سے صحابہ روشن ہوئے ان سے تابعین روشن ہوئے تابعین سے متبع تابعین روشن
 ہوئے اور ان سے ائمہ مجتہدین روشن ہوئے ان سے ہم روشن ہوئے اب ہم تم سے کہتے
 ہیں یہ نور ہم سے لے لو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ تم ہم سے روشن ہو۔ وہ نور یہ ہے
 کہ اللہ و رسول کی سچی محبت ان کی تعظیم اور ان کے دوستوں کی خدمت اور ان
 کی تکریم اور ان کے دشمنوں سے سچی عداوت جس سے اللہ و رسول کی شان میں
 ادنیٰ تو این پاؤ پچھوہ تمہارا کیسا ہی پیارا کیوں نہ ہو فوراً اس سے جدا ہو جاؤ جس
 کو بارگاہ رسالت میں ذرا بھی گستاخ و کھو پچھوہ کیسا ہی تمہارا بزرگ محکم کیوں نہ ہو
 اپنے اندر سے اسے دودھ سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ میں پونے چودہ
 برس کی عمر سے یہی بتاتا رہا اور اس وقت پھر یہی عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمادے

اپنے دین کی حمایت کے لئے کسی زندہ کو کھڑا کر دے گا مگر نہیں معلوم میرے بعد جو آئے کیسا ہو اور تمہیں کیا بتائے اس لئے ان باتوں کو خوب سن لو حجۃ اللہ قائم ہو چکی اب میں قبر سے اٹھ کر تمہارے پاس نہ آؤں گا جس نے اسے سنا اور مانا قیامت کے دن اس کے لئے نور و نجات ہے اور جس نے نہ مانا اس کے لئے ظلمت و ہلاکت یہ تو خدا و رسول کی وصیت ہے جو یہاں موجود ہیں سنیں اور مانیں انھیں یہاں موجود نہیں تو حاضرین پر فرض ہے کہ غائبین کو اس سے آگاہ کریں اور دوسری میری وصیت یہ ہے کہ آپ حضرات نے کبھی مجھے کسی قسم کی تکلیف پہنچنے دی میرے کام آپ لوگوں نے خود کئے مجھے نہ کرنے دیئے اللہ تعالیٰ آپ سب صاحبوں کو جزائے خیر دے مجھے آپ صاحبوں سے امید ہے کہ قبر میں بھی اپنی جانب سے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہ ہوں گے میں نے تمام اہل سنت سے اپنے حقوق و وجہ اللہ محاف کر دیئے ہیں آپ لوگوں سے دست بستہ عرض ہے مجھ سے جو کچھ آپ کے حقوق میں ضرور کذاست ہوئی ہے محاف کر دیں اور حاضرین پر فرض ہے کہ جو حضرات یہاں موجود نہیں ان سے میری معافی کرالیں ختم جلسہ کے وقت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے اس گھر سے فتوے نکلنے نوے برس سے زائد ہو گئے میرے دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدت العمر یہ کام کیا جب وہ تشریف لے گئے تو اپنی جگہ میرے والد ماجد قدس سرہ العزیز کو چھوڑا میں نے چودہ سال کی عمر میں ان سے یہ کام لیا پھر چند روز بعد امامت بھی اپنے ذمہ کرنی غرض کہ میں نے اپنی صغر سنی میں کوئی باران پر نہ رہنے دیا جب انھوں نے رحلت فرمائی تو مجھے چھوڑا اور اب میں تم تین کو چھوڑتا ہوں تم یو یعنی مولانا محمد حامد رضا خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ معطفے رضا ہیں پتھارا بھائی حسین ہے سب مل جل کر کام کرو گے تو خدا کے فضل و کرم سے کرسکو گے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد اپنے سپہاندوں کے حق میں خدمت دین و

ترقی علم کی دعا فرمائی۔ ان مبارک وصایا نے کج پر ایسا گہرا اثر ڈالا کہ لوگ دھاڑیں مار مار کر روئے لوگوں کا اس روز ہلک ہلک کر رونا غم بھر یاد رہے گا۔ کچھ اس روز ہی اپنی رحلت کی تصریح نہ فرمائی بلکہ اس کے بعد سے یوم وصال تک لگاتار خبریں اپنی وفات شریف کی دیں اور ایسے وثوق سے کہ گویا منٹ منٹ کی خبر ہے۔

وصال شریف سے دو روز قبل چار شنبہ کو بڑی شدت سے لڑہ ہوا جناب بھائی حسین رضا خاں صاحب کو قبض دکھائی بھائی صاحب قبلہ کو قبض نہ ملی دریافت فرمایا قبض کی کیا حالت ہے انھوں نے گھبراہٹ اور ریشائی میں عرض کیا ضعف کے سبب سے نہیں ملتی اس پر فرمایا آج کیا دن ہے لوگوں نے عرض کیا چار شنبہ ہے ارشاد فرمایا جمعہ پر یوں ہے یہ فرما کر دینک حسبن اللہ ونعم الوکیل بڑھتے رہے شبِ نچشتیہ کو اہل بیت نے چاہا کہ جائیں شاید کوئی ضرورت ہو منع فرمایا۔ جب انھوں نے زیادہ اصرار کیا تو ارشاد فرمایا کہ انشاء اللہ یہ رات وہ نہیں ہے جو تمہارا خیال ہے تم سب سو رہو۔ وصال کے روز ارشاد فرمایا پچھلے جمعہ میں کرسی پر جانا ہوا آج چارپائی پر جانا ہو گا پھر فرمایا میری وجہ سے نماز جمعہ میں تاخیر نہ کرنا۔

جمعہ کے روز کچھ تناؤ نہ فرمایا بھائی حکیم حسین رضا خاں صاحب حاضر خدمت تھے اعلیٰ حضرت قبلہ کو خشک ڈکار آئی ارشاد فرمایا خیال رہے محدہ خالی ہے ڈکار خشک آئی ہے اس پر بھی احتیاطاً وصال سے کچھ قبل چوکی پر تشریف لے گئے جمعہ کے روز صبح سے سفر آخرت کی تیاریاں ہوتی ہیں جائداد کے متعلق وقف نامہ تکمیل فرمایا۔ جائداد کی چوتھائی آمدنی صرف خیریں رکھی باقی اپنے ورثا بھصص شرعی وقف علی الاولاد فرمادی۔ پھر وصیت نامہ مرتب فرمایا۔

شروع نزع وقت کارڈ لفاغے روپیہ پسیہ کوئی تصویر اس

اس دالان میں نہ رہے۔ جنب یا حائض نہ آنے پائے۔ کتا مکان میں نہ آئے سورہ یسین سورہ رعد باؤڑ پڑھی جائیں کلمہ طیبہ سینہ پر دم آئے متواتر باؤڑ پڑھا جائے کوئی چلا کر بات نہ کرے کوئی رونے والا کچھ مکان میں نہ آئے۔

بعد قبض روح فوراً نرم ہاتھوں سے آنکھیں بند کر دی جائیں بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ کہہ کر نزع میں نہایت سرد پانی ممکن ہو تو برف کا پلایا جائے ہاتھ پاؤں وہی ٹپھ کر سیدھے کر دیئے جائیں پھر اصلاً کوئی نہ روئے وقت نزع میرے اور اپنے لئے دعائے خیر مانگئے نہ ہو کوئی کلمہ برا زبان سے نہ نکلے نہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ جنازہ اٹھنے پر خبردار کوئی آواز نہ نکلے غسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو جنازہ میں بلا وجہ شرعی تاخیر نہ ہو جنازے کے آگے خبردار کوئی شہر میری مدح کا نہ پڑھا جائے یوں ہی قبر پر قبر میں بہت آہستگی سے آنا رہیں دستِ کروٹ پر وہی دعا پڑھ کر ٹاپیں پیچھے نرم مٹی کا پشتارہ لگائیں جب تک قبر تیار ہو سبحان اللہ والحمد للہ ذلّٰلہ الا اللہ والہدٰی والنعیم والبرکات اللہم ثبت عبدک ہذا بالقول الشارح بجاہ نبیک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھتے رہیں۔ اناج قبر پر نہ لے جائیں یہیں تقیم کریں۔ وہاں بہت عمل ہوتا ہے اور قبروں کی بے حرمتی بعد تیاری قبر سمرانے الم یا مفلحون یا معنی امن الرسول تا آخر سورہ پڑھیں اور سات بار باؤڑ بلند حامد رضا اذان کہیں پھر سب واپس آئیں اور متعلقین میرے مواجہہ میں کھڑے ہو کر تین بار تلقین کریں سچھے ہٹ ہٹ کر پھر اعزہ اجاب چلے جائیں اور پڑھ گھنٹہ میرے مواجہہ میں درود شریف ایسی آواز میں پڑھتے رہیں کہ میں سنوں پھر مجھے رحم الراحمین کے سپرد کر کے چلائیں۔

اور اگر تکلیف گوارا ہو سکے تو تین شبانہ یوم کامل پہرے کے ساتھ دو عزیز یا دوست مزاحم میں قرآن مجید درود شریف ایسی آواز سے بلا وقفہ پڑھتے ہیں کہ اللہ چاہے تو اس نے مکان سے دل لگ جائے (جس وقت سے وصال فرمایا اس وقت سے غسل شریف تک قرآن عظیم باؤڑ پڑھا گیا پھر تین شبانہ روز مواجہہ شریف میں مسلسل تلاوت قرآن عظیم جاری رہی)

کفن پر کوئی دو سالہ یا قیمتی چیز یا شامیانہ نہ ہو کوئی بات خلاف سنت نہ ہو اعزہ سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو تو فاتحہ ہفتہ میں دو تین بار ان اشیاء سے بھی کچھ بھیج دیا کریں۔ دودھ کا برف خانہ ساز اگر چھبیس کے دودھ کا ہو۔ مرغ کی بریانی ہرغ پلاؤ خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھے اور بالائی، فیرنی، ارد کی پھیری، دال مسح اور کدو لازم۔ گوشت بھری کچوریاں، بسبب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل۔ دودھ کا برف اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے یوں کر دیا جیسے مناسب جائے مگر بطیب خاطر میرے بھٹے پر مجبور نہ ہو۔

فاتحہ کے کھانے سے اغنیا کو کچھ نہ دیا جائے صرف فقراء کو دیں اور وہ بھی اعزاز اور خاطر داری کے ساتھ نہ کہ جھڑک کر غرض کہ کوئی بات خلاف سنت نہ ہو۔

اللہ اکبر اللہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان تھی کہ عمر بھر تو غریب پوری فرمائی مگر وصال کے وقت بھی غریب مسکین فقیروں پر کرم فرمایا کہ ان کے نام وصیت درج کرا دی کہ یہ سب چیزیں غریبوں کو کھانے کو کہاں ملتی ہیں بڑے بڑے امیروں کی فاتحہ میں عمدہ چیزیں تو عزیز رشتہ دار سے کب بچتی ہیں غریبوں کو تو وہی عام معمولی اشیاء ملتی ہیں اسی لئے وصیت فرمائی کہ میری

وہ سے غریب مسلمان ان چیزوں سے مستفیض ہوتے رہیں گے۔ اور ہر حدیث سے ثابت ہے کہ جو چیز ایصالِ ثواب کی جائے میت کو بجنسہ وہی شے ملتی ہے لہذا اس حدیث کی صداقت بھی دیکھیے کہ دودھ کا برف بتایا۔ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ رضا خاں صاحب نے عرض کی اسے تو حضور پہلے کھیا چکے ہیں فرمایا پھر کھو انشاء اللہ مجھے میرا رب سب سے پہلے برف ہی عطا فرمائے گا اور ایسا ہی ہوا کہ ایک صاحب دفن سے پہلے ہی بغیر اطلاع دودھ کا برف لائے اور فاتحہ دلا کر غریب کو تقسیم کیا۔ وضاحت کے لئے دعایا شریف ملاحظہ ہو۔

بعض واقعات قبل وصال شریف وصیت نامہ تحریر کیا پھر اس پر خود عمل کرایا وصال شریف

کے تمام کام گھڑی دیکھ کر ٹھیک وقت پر ارشاد ہوتے رہے جب دو بجے میں چار منٹ باقی تھے اس وقت پوچھا عرض کیا گیا فرمایا گھڑی بھلی سامنے رکھ دو۔ یکایک ارشاد فرمایا تھا ویر ہما دو دیہاں تصویر کا کیا کام یہ خطرہ گزرا تھا کہ خود ارشاد فرمایا یہی کارڈ، لٹافہ، روپیہ پسپیہ پھر ذرا وقفہ سے حضرت مولانا محمد حامد رضا خاں صاحب سے ارشاد فرمایا وضو کر آؤ قرآن عظیم لاؤ ابھی وہ تشریف نہ لائے تھے کہ مولانا مصطفیٰ رضا خاں صاحب سے پھر ارشاد فرمایا اب بیٹھے کیا کر رہے ہو سورہ یسین شریف اور سورہ رعد شریف تلاوت کرو۔ اب عمر شریف سے چند منٹ رہ گئے ہیں حسب الحکم دونوں سورتیں تلاوت کی گئیں ایسے حضور قلب اور تفیض سے سنیں کہ جس آیت میں استنباہ ہوا یا سننے میں پوری نہ آئی یا سبقت زبان میں زیر و زبر میں اس وقت فرق ہوا خود تلاوت فرما کر بتا دی۔ اس کے بعد سید محمود جان صاحب ایک مسلمان ڈاکٹر عائشہ حسین صاحب کو اپنے ہمراہ لائے ان کے ساتھ اور لوگ بھی حاضر ہوئے اس وقت جو جو حضرات اندر گئے سب کو سلام کے جواب دیئے اور سید صاحب سے دونوں ہاتھ بڑھا کر مہمانہ فرمایا ڈاکٹر صاحب نے اٹھ کر

قبلہ سے حال دریافت فرمانا چاہا۔ مگر اس وقت حکیم مطلق کی طرف متوجہ تھے ان سے اپنے مرض یا علاج کے متعلق کچھ نہ ارشاد فرمایا سفر کی دعائیں جن کا چلتے وقت پڑھنا مسنون ہے تمام و کمال بلکہ معمول شریف سے زائد پڑھیں پھر مکہ طیبہ پورا پڑھا جب اس کی طاقت نہ رہی اور سینہ پر دم آیا اور ہونٹوں کی حرکت اور ذکر باس الفاں کا ختم ہونا تھا کہ چہرہ مبارک پر ایک لمحہ نور کا چمکا جس میں جنبش مقلی جس طرح لمعان خورشید آمینہ میں جنبش کرتا ہے اس کے غائب ہوتے ہی وہ جان نوزم اطہر حضور سے پرواز کر گئی انا للہ وانا الیہ راجعون خود اسی زمانہ میں ارشاد فرمایا تھا تجھیں ایک جھلک دکھا دیتے ہیں وہ شوق دیدار میں ایسے جاتے ہیں کہ جانا معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ۵ مہر ۱۳۳۲ھ کو ٹھیک نماز جمعہ کے وقت اس بات کا مشاہدہ ہوا کہ محبوب خدا بڑی خوشی سے جان دیتے ہیں جانکی کا وقت سخت ترین وقت ہے لوگوں کے چہرہ پر وحشت چھا جاتی ہے درنہ کم الزم شکن پڑ جاتی ہے اور کسوں نہ ہو یہ جہم و روح دو پرانے دوستوں کے فراق کی گھڑی ہے مگر یہاں بجائے کلفت مسرت دیکھی وہ وصال محبوب کی پہلے سے بشارت پا چکے تھے وصال محبوب کا وقت قریب آ گیا ہے عزیز و اقارب گرد و پیش حاضر ہیں مگر کسی کی طرف نظر بھر کر نہیں دیکھتے یقیناً وہ ایسی ذات سے عنقریب ملا جا رہے ہیں جو ان سب پیاروں سے کہیں زیادہ پیارا اور محبوب حقیقی ہے۔

ع غسل شریف غسل شریف میں علماء عظام اور سادات کرام اور حفاظ شریفی تھے جناب سید اطہر علی صاحب نے لحد کھودی۔ جناب مولانا اجد علی صاحب نے حسب وصیت شریف غسل دیا عین غسل کے وقت ایک حاجی صاحب اٹھ کر قبلہ سے ملنے تشریف لائے انھیں آکر وصال شریف کی خبر مولیٰ تحفہ میں زمر شریف اور مدینہ طیبہ عظمیٰ اور دیگر تشرکات ساتھ لائے تھے زمر شریف میں کافر تکیا کیا اور غفلت رخصت میں لگا دیا گیا۔ تاجدار مدینہ کے قربان رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے سرکاری عطائیں عین وقت

پہنچیں۔ وصال محبوب کے لئے وہ ان کی خوشبوؤں سے بے ہوش ہوئے سدا ہمارے۔
 غسل شریف سے فراغ حاصل ہونے پر عورتوں کو زیارت کا موقع دیا گیا گھر میں
 عورتوں کی اور باہر مردوں کی سجد کثرت تھی عورتوں نے زیارت کر لی لوگوں میں
 ایسا جوش کبھی نہ دیکھا گیا کاندھادینے کی آرزو میں آدمی پر آدمی گزرتا تھا جد و جہد
 نے لوگوں کو از خود رفتہ و بچہ و بنادیا تھا جو جنازہ تک پہنچ گئے تھے وہ بٹنے کا نام تک
 نہ لیتے تھے۔ وہابی رافضی پنجوی بکثرت شریک تھے۔ ایک رافضی المذہب انتہائی
 کوشش اور پوری قوت صرف کر کے جنازہ تک پہنچا اسے ایک سستی نے یہ کہہ کر ہٹا دیا
 کہ مدت العمر علی حضرت کو تم لوگوں سے نفرت رہی جنازہ کو کاندھانہ دینے دوں گا۔
 اس نے کہا کہ اب ایسے حق کو مجھے کہاں ملیں گے لہذا اب نہ روکو۔ جنازہ ہر وقت
 کم از کم بیس کاندھوں پر رہا شہر میں کسی جگہ نماز کی گنجائش نہ تھی عید گاہ میں نماز
 نماز جنازہ ہوتی پہلے سے عید گاہ کے کسی مجین راستہ کا اعلان نہ تھا مگر درود یہ
 چھتیس عورتوں سے اور راستے مردوں سے بھرے ہوئے منتظر تھے کہ امام اہل سنت
 کا یہ آخری جلوس ہے لاؤ نظارہ کر لیں بعد نماز عید گاہ میں زیارت کرائی گئی۔
 اور واپسی پر تمام راہ لوگوں نے دل کھول کر زیارت کی حسب وصیت
 یہ نعت نعت خوان پڑھ رہے تھے ے کعبہ کے بدر البقی تم کہ کروڑوں درود

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں (صلی اللہ علیہ وسلم)

از استاد العلماء حضرت مولانا حافظ عبد العزیز صاحب شیخ الحدیث جامعہ تفریقہ پاکپور

میری زندگی کا سب سے بہترین زمانہ دارالخیر اجمیر شریف کی حاضری کا وہ
 دور طالب علمی ہے جس میں نو سال تک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے دربار
 میں حاضری نصیب ہوئی اور استاد محترم حضرت صدر الشریعہ قبلہ رحمۃ اللہ علیہ
 کی کشف برداری کا شرف حاصل رہا اس مبارک زمانہ میں اکثر علماء و مشائخ
 و بزرگان دین کی زیارت میسر آتی تھی ان میں بزرگوں میں حضرت مولانا سید اکبر رسول خدا

سجادہ نشین آستانہ عالیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں صاحب
 قبلہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ میں جو بڑے بلند پایہ بزرگ تھے دیوان صاحب کے یہاں
 تشریف لایا کرتے تھے موصوف کی خدمت میں حاضری ہوا کرتی تھی اکثر بزرگان دین
 کے واقعات بیان فرمایا کرتے تھے ایک روز حضرت موصوف نے بیان فرمایا کہ ماہ
 ربیع الثانی ۱۳۴۰ھ میں ایک نشانی بزرگ دہلی سے تشریف لائے ان کی آمد کی
 خبر پاکران سے ملاقات کی بڑی شان و شوکت کے بزرگ تھے طبیعت میں بڑا ہی
 استغنا تھا مسلمان جس طرح عروں کی خدمت کیا کرتے ہیں ان کی بھی خدمت
 کرنا چاہتے تھے نذر پیش کرتے تھے مگر وہ قبول نہیں کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ
 بفضلہ تعالیٰ میں فارغ ابدال ہوں مجھے ضرورت نہیں ان کے اس استغنا اور
 طویل سفر سے تعجب ہوا۔ عرض کیا حضرت یہاں تشریف لانے کا سبب کیا ہے فرمایا
 مقصد بڑا زرین تھا لیکن حاصل نہ ہوا جس کا افسوس ہے واقعہ یہ ہے کہ ۱۵ ہجری
 ۱۳۴۰ھ کو میری قسمت بدلا رہی تھی خواجہ صاحب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی
 زیارت نصیب ہوئی دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین
 حاضر و بار ہیں لیکن مجلس پر سکوت طاری ہے قریب سے معلوم ہوتا تھا کہ کسی کا انتظار
 ہے میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا فداک ابی و اُمی کس کا انتظار ہے فرمایا
 احمد رضا کا انتظار ہے میں نے عرض کیا احمد رضا کون ہیں فرمایا ہندوستان میں
 بریلی کے باشندے ہیں بیداری کے بعد میں نے تحقیق کی معلوم ہوا مولانا احمد رضا
 خاں صاحب بڑے ہی جلیل القدر عالم ہیں اور بقید حیات ہیں مجھے مولانا کی ملاقات
 کا شوق ہوا۔ میں ہندوستان آیا بریلی پہنچا معلوم ہوا کہ ان کا انتقال ہو گیا۔
 اور وی ۲۵ صفر ان کی تاریخ وصال تھی میں نے طویل سفر صرف ان کی
 ملاقات ہی کے لئے کیا تھا لیکن افسوس کہ ملاقات نہ ہو سکی اس سے اطمینان
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقبولیت بارگاہ رسالت میں معلوم ہوتی ہے کیوں نہ
 ہو عاشقان رسول یوں نوازے جاتے ہیں۔

چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور قمر پردے میں ہے

جب سے تو اے نائب خیر البشر پردے میں ہے
 پڑ گیا پردہ کچھ ایسا ہر نظر پردے میں ہے
 ان کی تصنیفات عالی بحدان کے دیکھئے
 رہبری کو اپنی ہیں گواہ ہر پردے میں ہے
 ایسی روپوشی کے صدقے ایسے پردے پر شمار
 چاندنی پھیلی ہوئی ہے اور قمر پردے میں ہے
 آہ بیمار مجت آب ہی سہ ماہی
 تنہا سہارے پر جے جب چارہ گر پردے میں ہے
 چلتے پھرتے تو ہیں نظروں میں نظر آتے نہیں
 خود بھی پردے میں ہیں ان کی رہ گزر پردے میں ہے
 عکس ذات العلیٰ مفتی اعظم تو ہیں
 ان کو دیکھو جتہ الاسلام گر پردے میں ہے
 دوستو کیا ان کی رگ رگ میں نہیں خون رفا
 نخت دل تو ہے مگر نخت جگر پردے میں ہے
 ان میں بھی صورت رضا کی صاف آتی ہے نظر
 یہ تو پردے میں نہیں ہیں وہ اگر پردے میں ہے
 لاج رکھ لیتے ہیں وہ صہبا کے پھیلے ہاتھ کی
 پردہ والوں کے جو ہیں ان کی گزر پردے میں ہے

شجرہ منظر حضرت امتیاز کرام

سلسلہ مبارکہ قادریہ برکاتیہ رضویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم

یا الہی رحمہما مصطفیٰ کے واسطے
 مشکلیں حل کر شہدائے کربلا کے واسطے
 سید جاد کے صدقے میں صاحب رکھ مجھے
 بہر حرف و دوسری معرف دے بخود سری
 بہر بٹلی شہر حق دنیا کے کتوں سے بچا
 بوالفرح کا صدقہ کرم کو فرج دے جن وسد
 قادری کر قادری رکھ قادریوں میں تھا
 احسن اللہ کے رزق سے دے رزق جن
 نھرا بی صاحب کا صدقہ صاحب منصور رکھ
 طور عرفان و علو حمد و ستی و ہزار
 بہر ابراہیم مجھ پر نثار غم گلزار کر
 خانہ دل کو ضیاء دے روئے ایمان کو جمال
 دے محمد کے لئے روزی کر احمد کے لئے
 دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے
 حب اہل بیت دے آل محمد کے لئے
 دل کو اچھا حق کو مستحراجان کو پرو کر
 دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر
 کر عطا احمد رضا کے احمد مرسل مجھے
 یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے
 کربلا میں رزق شہید کربلا کے واسطے
 علم حق دے باقر علم ہدے کے واسطے
 جنت حق میں کن جنتیہ باصفاء کے واسطے
 ایک کار رکھ بعد واحد پیرایہ کے واسطے
 بلوچن اور پو سید سعد زاکے واسطے
 قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے
 بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے
 دے حیات دین محی جانفرا کے واسطے
 دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے
 بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے
 شہ فیما مونی جمال الاولیاء کے واسطے
 خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے
 عشق حق دے عشقی عشق انما کے واسطے
 کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے
 اچھے پیارے شمس دین بدر سحلی کے واسطے
 حضرت آل رسول مقتدا کے واسطے
 میرے مولا حضرت احمد رفیع کے واسطے

حمد و ثناء ایمان کا دے چھین عز علم و عمل
 عفو و غفار عافیت اس بیوا کے واسطے

مشائخ سلسلہ مبارکہ قادریہ رضویہ کے تالیف نمائے وصال مقامات و مرآت مقدسہ

تاکہ جو عقیدت مند چاہیں صحیح تاریخ پر فائز ہو سکیں اور جو ان مقامات سے گزریں زیارت سے مشرف ہوں

نمبر	اسماء مبارکہ	تاریخ و سنہ و وصال	مدفن شریف
۱	حضرت پیر سیدنا سرکار و عالم علی شریف	۱۲ ربیع الاول شریف	مدینہ منورہ شریف
۲	حضرت سیدنا اموی علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ	۲۱ رمضان المبارک	بجٹ اشرف
۳	حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ	۱۰ محرم الحرام	کربلائے معلیٰ
۴	حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ	۸ محرم الحرام	مدینہ شریف
۵	حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ	۶ ذی الحجہ	مدینہ شریف
۶	حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ	۵ رجب المرجب	مدینہ شریف
۷	سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ	۵ رجب المرجب	بغداد شریف
۸	حضرت سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ	۲۱ رمضان المبارک	مشہد شریف
۹	حضرت سیدنا شیخ معروف کوفی رضی اللہ عنہ	۲ محرم الحرام	بغداد شریف
۱۰	حضرت شیخ سری سقطی رضی اللہ عنہ	۱۳ رمضان المبارک	بغداد شریف
۱۱	حضرت سیدنا حیدر بغدادی رضی اللہ عنہ	۲۴ رجب المرجب	بغداد شریف
۱۲	حضرت سیدنا ابو جعفر شری رضی اللہ عنہ	۲۴ ذی الحجہ	بغداد شریف
۱۳	حضرت سیدنا عبد الواحد حبیبی رضی اللہ عنہ	۲۶ جمادی الآخرہ	بغداد شریف
۱۴	حضرت سیدنا ابو الفرج طوسی رضی اللہ عنہ	۳ شعبان	بغداد شریف
۱۵	حضرت سیدنا ابو الحسن ہمدانی رضی اللہ عنہ	۲۸ محرم الحرام	بغداد شریف
۱۶	حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ	۴ شعبان	بغداد شریف
۱۷	حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ	۱۱ ربیع الثانی	بغداد شریف
۱۸	حضرت سیدنا شیخ عبد الرزاق رضی اللہ عنہ	۶ شوال	بغداد شریف

نمبر	اسماء مبارکہ	تاریخ سن و وصال	مدفن شریف
۱۹	حضرت سیدنا ابو صالح نهری رضی اللہ عنہ	۲۴ رجب المرجب	بغداد شریف
۲۰	حضرت سیدنا امی الدین نهری رضی اللہ عنہ	۲۲ ربیع الاول	بغداد شریف
۲۱	حضرت سیدنا علی جبالی رضی اللہ عنہ	۲۳ شوال المکرم	بغداد شریف
۲۲	حضرت سیدنا موسیٰ رضی اللہ عنہ	۱۳ رجب المرجب	بغداد شریف
۲۳	حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ	۲۶ صفر المظفر	بغداد شریف
۲۴	حضرت سیدنا احمد جبالی رضی اللہ عنہ	۱۹ محرم الحرام	بغداد شریف
۲۵	حضرت شیخ بہاء الدین رضی اللہ عنہ	۱۱ ذی الحجہ	دولت آباد
۲۶	حضرت سیدنا شیخ ابراہیم لیری رضی اللہ عنہ	۵ ربیع الآخر	دہلی درگاہ محبوب الحق
۲۷	حضرت شیخ محمد بھکاری بادشاہ فی اللہ	۹ ذیقعدہ	کاکڑی شریف
۲۸	حضرت قاضی ضیاء الدین عرف شیخ جباری	۱۲ رجب المرجب	لکھنؤ قصبہ بنوئی
۲۹	حضرت شیخ جمال الاولیاء رضی اللہ عنہ	شعبان المظفر	کورا جہاں باد خجندہ
۳۰	حضرت سیدنا محمد کاکڑی رضی اللہ عنہ	۱ شعبان المکرم	کاپی شریف
۳۱	حضرت سیدنا شیخ احمد رضی اللہ عنہ	۱۹ صفر المظفر	کاپی شریف
۳۲	حضرت سیدنا فضل اللہ رضی اللہ عنہ	۴ ذیقعدہ	کاپی شریف
۳۳	حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ رضی اللہ عنہ	۱۰ محرم الحرام	ماہرہ شریف
۳۴	حضرت سیدنا شاہ آل رسول رضی اللہ عنہ	۱۹ رمضان المبارک	ماہرہ شریف
۳۵	حضرت سیدنا شاہ حمزہ رضی اللہ عنہ	۱۳ رمضان المبارک	ماہرہ شریف
۳۶	حضرت سیدنا شاہ آل احمد چھ میاں رضی اللہ عنہ	۱۴ ربیع الاول	ماہرہ شریف
۳۷	حضرت سیدنا شاہ آل رسول محمدی رضی اللہ عنہ	۱۸ ذی الحجہ	ماہرہ شریف
۳۸	حضرت سیدنا شاہ محمد احمد رضا خاں	۲۵ صفر المظفر	بریلی شریف
	منیاء الدین اعظم حضرت رضی اللہ عنہ	یوم جمعہ ۲ بجے ۸ منٹ	عس ۲۳ ۲۴ ۲۵ صفر

اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت مکے و مدینہ کے علمائے کیا تھے فرمنا
علمائے مکہ

استاد علمائے حرم مولانا سعید اللہ مفتی شافعی علامہ کامل استاد ماہ
جوانی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دین کی طرف سے جہاد و جدال کو تاپہ میرے بھائی
میرے محضر حضرت احمد رضا خاں اللہ سے اس کے بیان پر عمدہ جزا عطا فرمائے اس
کی کوشش قبول کرے ال کمال کے دلوں میں اس کی عظیم وقعت پیدا کرے۔ آمین
مکہ معظمہ کے خطیب اور اماموں کے سردار مولانا شیخ الوائلی مرواد صاحب
علامہ فاضل کہ اپنی آنکھوں کی روشنی سے مشکلوں اور دشواریوں کو
حل کرتا ہے احمد رضا خاں جو اسم با سہمی ہے اس کے کلام کا موتی اس کے معنی کے
جواہر سے مطابقت رکھتا ہے باریکیوں کا خزانہ محفوظ بخینوں سے چنا ہوا حضرت
کا آفتاب جو ٹھیک دوپہر کو چمکتا علموں کی مشکلات ظاہر و باطن نہایت عقدہ
کھولنے والا جو اس کے فضل پر آگاہ ہو گئے کہ اگلے پچھلوں کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے
زمانے میں میں گرچہ آخر ہوا وہ لاؤں جو اگلوں سے ممکن نہ تھا
خدا سے کچھ اس کا چنبھا نہ جان کہ موجب اک شخص میں سب جہان
اللہ تعالیٰ اس کی ذات اور اس کی تصنیفات سے انگلوں پچھلوں کو نفع بخشے اور
اس کی زندگی سے تمام جہان کو بہرہ مند کرے۔ اللہ تعالیٰ (اعلیٰ حضرت) کو سب
مسلمانوں کی طرف سے جزائے کثیر دے وہ ہر حق دنیا تک حق کا نشان بلند کرنا اہل
حق کو مدد و تیار ہے ہمیشہ عنایات الہی کی نگاہ اس پر رہے قرآن عظیم ہر دشمن
عاسد و بدخواہ کے مکر سے اس کی حفاظت کرے صدقہ ان کی وجاہت کا
جو انبیاء و مرسلین کے خاتم ہیں۔

سابق مفتی حقیقہ مولانا صاحب کمال صاحب علمائے عمار کی آنکھوں کی ٹھنڈ

حضرت مولانا محقق، زمانے کی برکت احمد رضا خاں بریلوی الہی درود و سلام
نازل فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کی آل و صحابہ پر اور نیک پسروں پر
بائنخصوص احمد رضا خاں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے سلامت رکھے ہر بری
اور ناگوار بات سے اسے بچائے۔ اس پر ہمیشہ سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی
برکت۔ اللہ تعالیٰ ان کو مسلمانوں کے لئے مضبوط قلعہ بنا کر قائم رکھے اپنی بارگاہ
میں اس کو بڑا اجر و بلند مقام دے۔

آفتاب علوم مولانا شیخ علی بن حدیق کمال۔ امام پیشوا روشن ستارہ و باب
کی گردن پر شیخ براں استاد محترم۔ نامور مشہور ہمارا سردار ہمارا پیشوا احمد رضا خاں
بریلوی اللہ سے سلامت رکھے۔ دین کے دشمنوں پر اس کو فتح دے محمد صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا صدقہ اور اس پر سلام ہو۔

عالم کبیر شیخ محمد عبدالحق مہاجر الہ آبادی۔ علامہ عالم خلیل۔ دریائے ذخا
پر گئے۔ بسیار فضل۔ کثیر الاحسان۔ دلیہ دریائے بلند بہت۔ زمین۔ دانش مند
بحر نیاں انکار شرف و عزت و سیقت والا۔ صاحب ذکاوت سحر انہایت کرم والا
ہمارا مولیٰ کثیر النعم حاجی احمد رضا خاں وہ جہاں ہو اللہ اس کا ہوا ہر جگہ اس
کے ساتھ لطف فرمائے اسے پوری جزائے بخشے اس پر انتہا درجہ کی ایسی نعمتیں کثیر و
وافر کرے ابد الابد تک اس کے فضل کو ممتد کرے نہایت وسیع عیش کے ساتھ
جس سے جی نہ اکتائے نہ کوئی حادثہ پیش آئے سردار المرسلین کا صدقہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم آمین اللہ آمین

محافظ کتب حرم محترم مولانا سعید اسماعیل خلیل صاحب تحریر فرماتے ہیں
عالم باعمل فاضل کامل منقبتوں اور فخریوں والا۔ اس کا مثل منظر کہ انگلوں پچھلوں
کے لئے بہت کچھ چھوڑ گئے بیکٹائے زمانہ اپنے وقت کا یگانہ مولانا حضرت احمد رضا
خاں وہ کیوں نہ ایسا ہو کہ علماء اس کے لئے ان فضائل کی گواہیاں دے رہے
ہیں اگر وہ سب سے بلند مقام پر نہ ہوتا تو علمائے مکہ اس کی نسبت یہ گواہی نہ دیتے

بلکہ میں کہتا ہوں اگر اس کے حق میں یہ کہا جائے کہ وہ اس صدی کا مجدد ہے تو اللہ تعالیٰ وحی بھیجے ہو

خدا سے کچھ اس کا اچھا نہ جان کر اس شخص میں جمع ہو سب جہاں اللہ بڑا احسان والا اسے سلامت رکھے اللہ اسے دین اور اہل دین کی طرف سے سب میں بہتر جزا عطا کرے اسے اپنے احسان اپنے کرم سے اپنا فضل اپنی رضا بخشے۔ زینت علماء مولانا سید مرتضیٰ ابن حبیب صاحب تحریر فرماتے ہیں بیشک مجھ پر اللہ کا احسان ہوا کہ میں حضرت عالم علامہ سے ملا زبردست عالم، دریائے عظیم الفہم جن کی فضیلتیں وافر بڑائیاں ظاہر، دین کے اصول و فرع میں تصنیف کا کثر میں نے ان کا اچھا ذکر اور بڑا مرتبہ پہلے ہی سنا تھا اور ان کی بعض تصانیف کے مطالعہ سے مشرف ہوا تھا جن کے نور سے حق روشن ہوا تو ان کی محبت میرے دل میں جم گئی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی ملاقات سے احسان فرمایا میں نے وہ کمال ان میں دیکھے جن کا بیان طاقت سے باہر ہے میں نے علم کا وہ بلند دیکھا جس کے نور کا ستون اونچا ہے اور فتوؤں کا دریا جس سے مسائل ہنروں کی طرح چھلکے ہیں سیراب ذہن والا ایسے علموں کا صاحب جن سے فساد بند کئے گئے تقریر علوم دین میں طاقت و زبان والا جو علم کلام و فقہ و فرائض پر غلبہ کے ساتھ حاوی ہے توفیق الہی سے مستجاب و سنن و واجبات و فرائض پر محافظت والا عربیت حساب کا ماہر منطق کا دریا جس سے اس کے موتی حاصل کئے جاتے ہیں۔ علم اصول کا آسان طریقہ کرنے والا حضرت مولانا علامہ فاضل بریلوی حضرت احمد رضا مجھے انھیں دیکھ کر یہ قول یاد آیا

قافلے جانب احمد سے جاتے تھے یہاں حال دریافت پر مستثنا تھا نہایت اچھا جب ملے ہم تو خدا کی قسم ان آنکھوں نے اس سے بہتر نہ سنا تھا جو نظر نے دیکھا میں نے اپنے آپ کو اس کی مدرج میں مراد کی مقدار تک پہنچ دیکھا، اللہ اس کی عمر دراز کرے دونوں جہان میں اسے سلامت رکھے اس کے قلم کو وہ تیغ برہنہ

کرے جس کا پیام نہ ہو مگر اہل باطل کی گردنیں آئین اللہ امین اللہ اس کے ثواب بقاء عطا کرے اس کو سب سے بہتر جزا عطا کرے کہ دن بے دن اس کے عالم باعمل شیخ عمر بن ابی بکر باجید صاحب تحریر فرماتے ہیں فاضل علامہ جس کی طرف اطراف سے استفادے کے لئے سفر کیا جائے عظیم فہم والا حضرت احمد رضا بڑے فضل والا۔

سردار علماء مکہ مالکیہ مفتی مولانا عابد حسین صاحب تحریر فرماتے ہیں اس فتنوں کے زمانہ میں دین متین کو زندہ کرنے والا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا ارادہ کیا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وارث علمائے مشاہیر کا سرور معزز فاضلوں کا مایہ افتخار دین اسلام کی سعادت نہایت بزرگ و سیرت ہر کام میں پسندیدہ صاحب عدل عالم باعمل صاحب احسان حضرت مولانا احمد رضا خان اللہ تعالیٰ نے نیک نژدہ وقت مبارک ترساعت میں مجھ پر احسان کیا کہ مشارالہ آفتاب سعادت سے مجھے برکت ملی اور اس کے احسان بخشش کے میدان میں میں نے پناہ لی۔ اس پر اللہ کا سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ اس کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خیر دے اس کی سعادت کا ماہ تمام آسمان شرجیت روشن میں چمکتا رہے۔ اسے اپنے محبوب و پسندیدہ باتوں کی توفیق بخشے، اس کی تمنا کی انتہا تک اسے خیر عطا فرمائے آمین۔ حضرت مولانا علی بن حبیب صاحب مالکی تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ آسمان صفات سے آفتاب معرفت کا نور مجھے نظر پر ارادہ جس کے افعال حمیدہ اس کی آیات فضیلت کے ظاہر کرنے والے ہیں، دائرہ علم کا مرکز و قوم اسلام کے گھر میں ستارہ آسمان علوم کا مطلع مسلمانوں کا یار و راہ یا یوں کا نگہبان جنوں کی تیغ بران سے سیدیوں کی زبانیں کاٹنے والا، ایمان کے ستونوں روشن کا بلند کرنے والا حضرت مولانا احمد رضا خان عالی ہم، بڑی فضیلتوں والا۔ اللہ ہی کو حمد ہے کہ ایسی نعمتیں دے۔ اس پر اللہ کا سلام اور اس کی رحمت اور اس کی برکتیں اور اس کی رضا اللہ اس کو اسلام و مسلمین کی طرف سے بہتر وہ جزا دے جو اپنے فاضل بنو

کو عطا فرمائی۔ اسے شریعت روشن کے زندہ کرنے کی توفیق دے اور اس کا کام ٹھیک
صالح کرے اور اسے سعادت و تائید بخشے۔ ان بد بختوں پر ان کی مدد کرے ہمیشہ
اس کے اقبال کا ماہ تمام اس کے آسمان کمال میں چمکتا رہے۔ آمین اللہم آمین۔
جناب مولانا جمال بن محمد بن حسن صاحب تحریر فرماتے ہیں حضرت صاحب
احسان مولیٰ احمد رضا خاں شریعت روشن کا حامی اللہ تعالیٰ اسلام و مسلمین
کی طرف سے سب میں بہتر جزا عطا فرمائے اسے اپنے محبوب و پسندیدہ باتوں کی
توفیق دے اس کی حسب مراد سے خیر عطا فرمائے۔ آمین

مولانا اسد بن احمد صاحب مدرس حرم شریف تحریر فرماتے ہیں نادر
روزگار خلاصہ میل و نہار وہ علامہ جس کے سبب کچھ اگلوں پر فخر کرتے ہیں جلیل
فہم والا جس نے اپنے بیان روشن سے سبحان فیض البیان کو بالکل بے زبان کر چھوڑا۔
میرا سردار میری سند حضرت احمد رضا خاں بریلوی، اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں
کی گردنوں پر اس کی تلوار کو قابو دے اس کے سر عزت پر اس کے نشان کشادہ
کرے اسلام و مسلمین کی طرف سے اس کو جزائے خیر دے ہمیشہ اس کے دلوں
کی روشنی چمکتی رہے ہمیشہ اس کا دروازہ کعبہ مرادات و مقاصد رہے۔ جب تک
مدح کرنے والے اس کی مدح میں نغمہ سرائی کریں۔

سردار المدین مولانا شیخ عبدالرحمن صاحب وہان تحریر فرماتے ہیں
اللہ کا خاص بندہ مخالفین دین کا قمع کرنے والا علمائے باعمل کا مستند و راسخ
والے فاضلوں کا خلاصہ۔ علامہ زمان یکتائے روزگار جس کے لئے علمائے
مکہ معظمہ کو اہی دے رہے ہیں کہ وہ سردار ہے بے نظیر۔ امام ہے میرے سردار میرے
جائے پناہ حضرت احمد رضا خاں بریلوی اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں
کو اس کی زندگی سے بہرہ مند فرمائے اور مجھے اس کی روش نصیب کرے
کہ اس کی روش سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روش ہے الہی اپنے اس
خاص بندے حامی دین کی وہ مدد کر جس کے سبب تو دین کو عزت دے اور جس سے

تو اپنے اس وعدہ کو پورا کرے کہ مسلمانوں کی مدد کرنے کا ہم پر حق ہے بالخصوص
حضرت احمد رضا خاں بریلوی۔ اللہ تعالیٰ احساسدوں کی ناک خاک میں رگڑنے
کو شش جہت سے اس کی حفاظت کرے۔ آمین۔

مولانا محمد یوسف صاحب مدرس مدرسہ مولتیہ تشریف فرماتے ہیں، فاضل
علامہ دریائے قنار جو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے رسی تھکے ہے دین شریعت کے ستون
روشنی کا نگہبان وہ کلمہ زبان بلاغت جن کا شکر پورا کرنے میں قاصر اور اس کے
حقوق و احسانات کی خدمت سے عاجز ہے وہ جس کے وجود پر زمانہ کو ناز ہے
مولانا احمد رضا خاں وہ ہمیشہ راہ ہدایت پر چلتا ہے۔ بندوں کے سروں پر
فضل کے نشان پہیلا تا رہے شریعت کی حمایت کے لئے اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ
اس کی تلوار کو دشمنوں کی گردنوں میں جگہ دے۔ اس کو مسلمانوں کی طرف سے
بہتر جزا عطا فرمائے ہمیں اور اس کو سن و نبی و دیدار الہی کی نعمت دے آمین یا رب العالمین۔

مولانا شاہ امداد اللہ صاحب بنی مدرس مدرسہ امدیہ حرم شریف۔
دریائے ذخائر حق و دین کی مدد کرنے والے اور بی بیوں کی گردنیں طع کر کے پر قائم
ستودہ پر میر کا رفاصل، ستھر کا مل پھیلوں کا مستند، اگلوں کا قدم بقدم۔
فخر اکابر مولانا مولوی حضرت محمد احمد رضا خاں اللہ اس کی مثال کش کرے اور
مسلمانوں کو اس کی درازی عمر سے نفع بخشے اے اللہ ایسا ہی کر۔ اللہ تعالیٰ اس
کو سب سے بہتر جزا عطا فرمائے ہمارا اور اس کا حشر زیشان سید عالم صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کرے۔

زینت علماء مولانا محمد بن یوسف خیاٹی تحریر فرماتے ہیں حضرت فاضل
احمد رضا خاں کا اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک
بڑا اقدار ہے۔ اللہ اس کی کوشش قبول کرے۔ اللہ اس کی سہی مشکور کرے۔
حضرت مولانا محمد صالح بن محمد فاضل صاحب تحریر فرماتے ہیں اللہ کا
پسندیدہ بندہ جسے اس نے خدمت شریعت کی توفیق بخشی دقیقہ رس عقل دے

اس کی مدد کی کہ جب کبھی شبہ کی رات اندھیری ڈالے وہ اپنے آسمانِ علم سے ایک چودھویں رات کا چاند چمکاتا ہے وہ عالم، فاضل، ماہر، کامل، باریک فہموں والا، بلند معنوں والا، حضرت امام احمد رضا خاں اللہ اس کی کوشش قبول کرے۔ بے دنیوں کی جڑ اکھٹرنے کے لئے یقینی ججوں سے اس کی مدد کرے۔ صدقہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجاہت کا آمین۔ یہی مولانا شیخ سعید محمد بن یحییٰ تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس مصنف کا نوشہرہ پریم بنا کرے مجھے اور اسے بہشت اور اس سے زیادہ نعمت عطا کرے۔ حسب مراد اسے بھلائیوں دے آمین۔ صدقہ ان کی وجاہت کا جو امین ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔

حضرت مولانا حامد احمد محمد صاحب جد اوی تحریر فرماتے ہیں: معتد، پیشوا، عالم، فاضل، متبحر، دریائے وسیع شریس، کامل سمندر، محبوب مقبول پسندیدہ جس کی باتیں اور کام سب ستودہ مولانا حضرت احمد رضا خاں اللہ تعالیٰ آمین اور سب مسلمانوں کو اس کی زندگی سے خوب بہرہ یاب کرے اور اسے اور ہمیں اور سب کو اس کے علوم و تصنیفات سے نفع بخشے۔

علمائے مدینہ طیبہ

جناب تاج الدین الیاس صاحب مفتی حنفیہ تحقیقہ تحریر فرماتے ہیں: عالم، ماہر، علامہ مشہور۔ جناب مولیٰ فاضل حضرت احمد رضا خاں کہ علمائے ہند سے ہے اللہ عزوجل اس کے ثواب کو بسیاری دے۔ اس کا انجام خیر کرے۔ اللہ اسے اپنے نبی اور دینِ مسلمین کی طرف سے سب میں بہتر جزا عطا فرمائے اس کی عمر میں برکت دے۔ یہاں تک کہ اسکے سبب گمراہوں کے سبب شبہ متا دے۔

مفتی مدینہ مولانا عثمان بن عبد السلام داغستانی تحریر فرماتے ہیں: ہمارا مولیٰ علامہ دریائے عظیم الفہم حضرت احمد رضا خاں اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے

اس نے اپنے نعت سے نفاذی۔ اللہ تعالیٰ حضرت احمد رضا خاں کو جزائے خیر عطا کرے اس میں اور اس کی اولاد میں برکت رکھے اسے ان میں سے کرے جو قیامت تک حق ہوں گے۔

شیخ ماہکیہ سید شریف سردار مولانا سید احمد جزائری تحریر فرماتے ہیں حضرت جناب احمد رضا خاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس کی زندگی سے بہرہ مند فرمائے سلام اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں، اس کی تائید اس کی مدد حضرت احمد رضا خاں پر اللہ تعالیٰ اسے درازی عمر اور اپنی جنتوں میں ہمیشگی نصیب کرے۔ حضرت خلیل بن ابراہیم خرپوٹی صاحب تحریر فرماتے ہیں عالم علامہ فاضل کامل مولوی احمد رضا خاں بریلوی اللہ تعالیٰ اب تک مسلمانوں کو اس سے نفع پہنچائے اسے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے خیر جزا عطا فرمائے۔

مولانا سید محمد سعید شیخ الدلائل صاحب تحریر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جسے پسند کیا اسے خدمت شریعت کی توفیق بخشی اور نہایت تیز فہم عطا کر کے مدد دی تو جب شبہ کی رات اندھیری ڈالے وہ اپنے آسمانِ علم سے ایک چودھویں رات کا چاند چمکاتا ہے۔ ان حافظان شریعت اعلیٰ درجہ کے کامل علما پر کھنے والوں میں سب سے زیادہ عظمت والوں سے کثیر اسلم دریائے علم فہم حضرت مولوی جناب احمد رضا خاں۔

فاضل جلیل مولانا محمد بن احمد عمری صاحب تحریر فرماتے ہیں: عالم علامہ مرشد محقق نثر الفہم عرفان و معرفت والا۔ اللہ عزوجل کی پاکیزہ عطاؤں والا۔ ہمارا سردار۔ استاد دین کا نشان و ستون۔ فائدہ لینے والے کا متحد و پشت پناہ فاضل حضرت احمد رضا خاں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے بہرہ مند فرمائے اس کے فیض کے نوروں سے علموں کے آسمان روشن رکھے۔ اسلام و مسلمین کی طرف سے سب سے زیادہ کامل پیمانے سے اس کا ثواب پورا کرے۔

مولانا سید عباس بن سید محمد رضوان صاحب تحریر فرماتے ہیں: علامہ امام

تیز ذہن، بالا ہمت، جردار، صاحب عقل، صاحب جلالت، بگتائے دہر و زمانہ
حضرت مولوی احمد رضا خاں بریلوی حنفی۔ وہ ہمیشہ معرفتوں کا پھولا پھلا باغ ہے
اور علوم و فقہ کی منزلوں میں سیر کرتا ہوا مادہ تمام اللہ تعالیٰ مجھے اور اسے ثواب عظیم
عطا فرمائے جن عاقبت نصیب کرے ہم سب کو حسن خاتمہ روزی کرے ان کے ہمراہ
میں جو سارے جہان سے بہتر اور چودھویں رات کے چاند ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
شناخ آراستہ مولانا عمر بن محمد ان صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ عالم، علامہ،
کمال اور اک، عظیم فہم والا۔ اسی تحقیق والا جو عقل کو حیران کر دے جناب حضرت احمد
رضا خاں بریلوی اللہ تعالیٰ اس کی جان کی نگہبانی فرمائے اور اس کی شادمانی ہمیشہ رکھے۔
جناب سید محمد صاحب بن محمد مدنی صاحب تحریر فرماتے ہیں۔ عالم، علامہ، شکر کا
علوم کا کشادہ کرنے والا۔ اپنی توجہ شافی و تقریر کافی سے ان منطوق و مفہوم کا ظاہر
کر دینے والا حضرت احمد رضا خاں بریلوی اللہ تعالیٰ اس کا حال و کام اچھا کرے
آمین۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہترین امت سے نہایت کامل جزا عطا فرمائے۔ اس
اور جتنے لوگ اس کی پناہ میں ہیں انھیں اپنا قرب بخشے اس سے سنت کو قوت دے
اور بدعت کو ڈھائے آمین اللہم آمین۔

شیخ محمد صاحب قبلہ بن محمد بوسی مدرس مدینہ طیبہ تحریر فرماتے ہیں۔
علامہ۔ استاد ماہر نہایت ذہن رسا والا حضرت جناب احمد رضا خاں بریلوی۔
حضرت مولانا شریف احمد صاحب برزنجی مفتی شافعیہ تحریر فرماتے ہیں۔
علامہ فاضل۔ انسان کامل۔ علامہ محقق۔ فہامہ مدقق حضرت جناب احمد رضا
خاں۔ اللہ تعالیٰ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیے ان نفع ہمیشہ رکھے
اے اللہ ایسا ہی کر۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق اور بلندی ہمیشہ رکھے۔ میں آپ
کی کتاب المتعمد المستند کے خلاصہ پر واقف ہوا تو میں نے اسے مضبوطی اور پکچہ کے
اعلیٰ درجہ پر پایا۔ اس کے سبب آپ نے مسلمانوں کی راہ سے تہرکلیف ہٹا دی۔
اس میں آپ نے اللہ و رسول اور ائمہ دین کی خیر خواہی کی۔ اس میں آپ نے

حق کی ٹھیک دلیلوں سے ثبوت دیا۔ اس میں آپ نے رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کی تعمیل کی کہ دین خیر خواہی ہے۔ آپ کی تحریر مداحی اور
تعظیم اور اچھی تعریف سے بے نیاز ہے مجھے پسند آیا کہ اس کے روشن بیان کے میدان
میں بعض اور وجہ ظاہر کروں۔ تاکہ میں معصفت اعظم احمد رضا خاں کا شریک
ہو جاؤں اس اچھے حصے میں جو اس نے اپنے لئے واجب کر لیا اور اس اجر اور عہد
ثواب میں جو اللہ کے پاس ذخیرہ ہے۔ لے

استقامت و ولایت | اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نہ بھی دشمنوں کی دشناموں کی طرف
انتقام فرماتے نہ ان کمداروں کی مدح پر فخر کرتے بلکہ اپنے
لب کے حضور یوں عرض کرتے کہ وہ بندہ خدا جو ان (برا کہنے والوں) اور ان کے حاکموں
کے نزدیک عظمت کبریا و عزت مصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت
و خدمت کے جرم میں سخت سخت کالیوں کے لائق ہے (وہ بندہ) اللہ عز و جل
کے نیک بندوں حرمین طہیین کے محکم عالم و مہم مقدس مفتیوں کے نزدیک اسی
کار محکم کے باعث ان جلیل القدر مناقب و مدارج کا مستحق ہے عہدیں تفاوت رہا
بکاست تا بجا۔

حمد اس کی وجہ کریم کو جس نے اپنے اس بندے کو یہ ہدایت دی یہ استقامت
دی کہ وہ نہ ان اعظم اکابر کی ان عظیم مدحوں پر اترتا ہے بلکہ اپنے رب کے حسن نعت
کو دیکھتا ہے کہ پاکی ہے تیرے لئے تو نے اس ناچیز کو ان عظمائے عزیز کی آنکھوں
میں سر زفر مایا نہ ان دشنامیوں (برا کہنے والوں) اور ان کے حاکموں کی کالیوں
سے جو وہ زبانی دیتے اور اخباروں میں چھپتے ہیں پریشان ہوتا بلکہ شکر بجالاتا
کہ تو نے مجھ اپنے کرم سے اس ناقابل کو اس قابل کیا کہ یہ تیری عظمت اور تیرے
حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حمایت کر کے کالیاں کھائے اور محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سرکار کے پہرہ دینے والے کتوں میں اس کا چہرہ لکھا جائے

فان ابی وولدہ و عرضی
یعنی اے بد زبانو میں اس لئے تمہارے سامنے کھڑا ہوں کہ تم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدگوئی سے غافل ہو کر مجھے اور میرے باپ دادا کو کالیاں دینے میں مشغول ہو جاؤ میرے اور میرے باپ دادا کی ابر و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو سپر ہو جائے الٰہی ایسا ہی کر آمین یہی وجہ کہ بدگوہرات اس بندہ خدا پر کیا کیا طوفان بہتان اس کے ذاتی معاملات میں اٹھاتے ہیں۔ اخباروں اشتہاروں میں طرح طرح کی گڑھتوں سے کیا کیا خاکے اڑاتے ہیں مگر یہ اصلاً قطعاً نہ اس طرف التفات کرنا نہ جواب دیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ جو وقت مجھے عطا فرمایا کہ بعونہ تعالیٰ اعزت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمایت کروں۔ عاشقا کہ اسے اپنی ذاتی حمایت میں ضائع ہونے دوں۔ اچھا ہے کہ جتنی دیر مجھے برا کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بدگوئی سے غافل رہتے ہیں۔ ۷

فان ابی دولہ و عرضی
مولیٰ بخائی تمام سنیوں کو اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے قدم بقدم چلنے کی توفیق
مرحمت فرمائے آمین۔ آمین

کے اغراض و مقاصد

- بر دل مسلم میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع فروزاں کرنا۔
مسک اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترویج و اشاعت کے لئے ہم
وقت کوشاں رہنا۔
مختلف اوقات میں حفظ و ناظرہ کے مدرسوں کا انعقاد۔
عوام الناس میں دینی شعور بیدار کرنے کے لئے قائم لائبریری کے تحت
دینی کتب و کیسٹوں کا مفت اجراء۔
ہفتہ واری اجتماع کے سلسلے میں ہر ہفتہ مختلف موضوعات پر جید علماء
کرام کے بیانات کروانا۔
مختلف اوقات میں درس نظامی کی کلاسوں کا انعقاد۔
بدمذہب فرقوں کی طرف سے پھیلانے جانے والے گمراہ کن عقائد و
نظریات کی روک تھام کے لیے مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً عقائد
اہلسنت پر مبنی کتب و لٹریچر کی مفت اشاعت۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مذہب حق اہلسنت کا نشان یا رسول اللہ علیک الصلوٰۃ والسلام

ہدایت کا نشان ، محافظ ایمان ، کنز الایمان ، کنز الایمان

حضرات گرامی!

کوئی مسلمان نہیں چاہتا کہ وہ ایسا ترجمہ قرآن خود پڑھے یا دوسروں کو تحفہ دے جس میں :

- * کلام الہی میں جگہ جگہ عیوب اور نقائص کو شامل کیا گیا ہو۔
- * خود ساختہ مفہیم و مطالب کو منشاء و مراد الہی قرار دیا گیا ہو۔
- * عصمت انبیاء علیہم السلام کے عقیدے میں ضلالت و گمراہی کی پیوند کاری کی گئی ہو۔
- * مسلمانوں کے دلوں سے عظمت صالحین ختم کرنے کے لئے جوں والی آیات ان پر چسپاں کی گئی ہوں۔

ترجمہ قرآن کے ضمن میں احادیث مبارکہ اور چودہ سو (۱۴۰۰) سالہ معتبر اسلامی تفاسیر کو نظر انداز کر کے ذاتی رائے نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا ہو بلکہ ہر صحیح العقیدہ مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ ایسا ترجمہ پڑھے یا دوسروں کو تحفہ دے جو :

- تقدیس الہی کا امین ہو
- ناموس رسالت ﷺ کا محافظ ہو
- مقام صالحین کا پاسبان ہو
- عظمت صحابہ و اہلبیت علیہم الرضوان کا نگہبان ہو
- فصاحت و بلاغت کا مرقع ہو
- احادیث مبارکہ اور تفاسیر معتبر کا نچوڑ ہو
- بے ادبی اور بے حرمتی سے مبرا ہو
- گستاخیوں اور گمراہیوں سے منزہ ہو

لہذا ایسا ترجمہ قرآن جو اعتقادی ، علمی ، ادبی و لغوی محاسن کا مرقع ہے اور جس میں ہر مقام پر اللہ تعالیٰ کی شان اور انبیاء علیہم السلام کے ادب و احترام اور عزت و ناموس کو بطور خاص ملحوظ رکھا گیا ہے وہ امام اہلسنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ ”قرآن کنز الایمان شریف“ ہے۔ اس لیے قرآن مجید خریدتے وقت یا دوسروں کو بتاتے وقت کنز الایمان شریف کا بابرکت نام ضرور یاد رکھیے۔

خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے صاحب قرآن ہے آج بھی